



سیاں بیوی ایک دوسرے کا دل کیسے چلتی ہے

اشیع عروج بن عبد الشمر سلیمان
بیان

ترجمہ

ابوالقاسم فتح محمد حماد

تفہیم و نظر ثانی

ابو محمد حافظ عبد ستار الحمد

تفہیم ترجیح و تصویب

حافظ نذیر خبیث

مکتبہ اسلام امینہ

سیان بیوی ایک دوسرے
کا
دل کی جیتیں

لہیف
اشع عمر و بن عبد المنعم سالم

ترجمہ
ابوالقاسم قطب محمد حماد

تفہیم و نظر ثانی
حافظ نعم خاطر
اب محمد خاطر عبدالحکماو
ظہیر



مکتبہ اسلامیہ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں



ناشر
محمد بن حنبل

اشاعت اگست 2011ء

قیمت



ملنے کا پتا

مکتبہ اسلامیہ

بالمقابل رحمان مارکیٹ عربی سریت اردو بازار لاہور۔ پاکستان فون: 042-37244973

بیسٹ سسٹ میک بال مقابل شیل پڑول پپ کوتاں روڈ، نیصل آباد۔ پاکستان فون: 041-2631204، 2034256

E-mail: maktabaislamiapk@gmail.com

فہرست

7	تقدیم	
20	مقدمہ	
مثال خاوند		
27	مسلمان، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ثابت قدم	
31	سنت نبوی پر ثابت قدم	
34	حسن اخلاق کامالک	
36	اپنے بیوی کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینے والا اور ...	
40	اپنے رفیق حیات کے راز کو راز رکھتا ہے	
42	اپنے بیوی کی طرف سے عذر کی تلاش میں رہتا ہے، ...	
	حقیقت پسند ہوتا ہے، وہ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ اس کی رفیقہ حیات	
44	ہر لحاظ سے نمونہ ہو	
47	عورت کے ظاہر سراپا سے زیادہ اس کے باطن پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔	
49	اپنے رفیقہ حیات کو نیکی کی ترغیب دیتا رہتا ہے	
50	ایک مضبوط پناہ گاہ، مشکلات و مصائب میں عورت جس کا سہارا لے سکے۔	
52	اپنے شریکہ حیات کے ساتھ نرم خوئی سے پیش آتا ہے ...	
54	اپنے رفیقہ حیات کو تعلیم دیتا اور ادب سکھاتا ہے، ...	
56	اپنے صفائی، سحرائی، خوبیو اور لباس و پوشک میں خوش ذوقی کا خاص اہتمام کرتا ہے	
58	اپنے شریکہ حیات کا خرچ بطریق احسن اٹھاتا ہے	
60	اپنے رفیقہ حیات کے معاملے میں انہائی غیرت مند ہوتا ہے	

اپنی رفیقہ حیات کی تکریم کرتا ہے، اسے ذلیل و رسولانہیں کرتا، ... - 62	●
پر اعتماد، میدانِ عمل میں کامیاب - 70	●
اپنے وقت کی تقسیم و ترتیب میں ماہر - 72	●
گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹالتا ہے اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں مدد دیتا ہے - 73	●
ایک حساس انسان، بیوی کے ساتھ پیش آنے کے ڈھنگ سے واقف - 76	●
عقل مند، سمجھدار، دانا اور دالش مندی میں برتر و فائقت - 79	●
یقینی چیز پر عمل کرتا ہے ظن و تخيیل کے پیچے نہیں لگتا - 80	●
اپنی رفیقہ حیات کی عزت کرتا ہے، اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا - 81	●

دلرباب بیوی

سیک اور دیندار - 83	●
اپنے خاوند کی زبردست اطاعت گزار - 89	●
خاوند کے مال اور اس کی عزت کی حافظ - 92	●
خاوند کامال اس کی اجازت سے خرچ کرتی ہے - 95	●
خاوند کے گھر کی اس طرح پاسداری کرنے والی کہ گھر میں اس کی کوئی ناپسندیدہ شخصیت قدم نہ رکھنے پائے - 98	●
خاوند کی موجودگی کا لحاظ و خیال رکھنے والی - 102	●
پیکرِ محبت و مودت، بجسمِ رحمت والفت - 103	●
گھر میں بہترین آرائش و زیبائش کے ساتھ، اور عمدہ خوبیوں سے معطر ہو کر رہنے والی - 105	●
پاکد امریٰ اور شریف - 110	●

112	اپنے خاوند کی شکر گزار رہتی ہے، ناشکری نہیں کرتی	●
115	اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنے والی	●
117	اپنے شوہر کو اطاعت و فرمانبرداری اور نیکی کے کاموں پر ابھارنے والی۔	●
121	صبر و ایمان والی	●
123	اجر و ثواب کی امیدوار، انالہ پڑھنے والی	●
128	دل کی غنیٰ اور سیرچشم	●
	گھر میں قرار پکڑنے والی، اپنے نگاہ کی حفاظت کرنے والی اور	●
130	زیب و زینت کو مخفی رکھنے والی	●
134	اپنے خاوند کی غیرت کو مد نظر رکھنے والی	●
136	زرخیز، بکثرت پچے جننے والی	●
139	بستر پر خاوند کی چاہت اور مراد کو پورا کرنے والی	●
141	سچھدار اور زیر ک	●
142	عقلمند و دانا	●
144	اپنے گھر اور خاوند کو سنبھالنے والی	●
147	غصے کے وقت اپنی زبان پر کشیدن رکھنے والی	●

چند مضامین جو مجھے پسند آئے

151	میل جول کے راز اور میاں بیوی کی نفیات	●
151	☆ پہلا راز	●
151	☆ دوسرا راز	●
152	☆ تیسرا راز	●
152	☆ چوتھا راز	●
152	☆ پانچواں راز	●

- | | | |
|-----|--|---|
| 153 | چھٹاراز | ☆ |
| 154 | میان بیوی کے آپس کے میل جوں میں تناقض | ● |
| 155 | کچھ اخلاقی قواعد، جنہیں بعض لوگ مشکیش کہتے ہیں | ● |
| 156 | میان بیوی کے تعلقات میں خراب کیسے جنم لیتی ہے اور اس کا
علاق کیا ہے؟ | ● |
| 158 | نسیانی محرك ان مسائل کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے ... - | ● |
| 159 | میان بیوی کے آپس میں سلوک کے لیے نصیحتیں | ● |
| 163 | یہاں پائیں نصیحتیں بیان کی جاتی ہیں جو میان بیوی کے میل جوں
میں بہت اہم ہیں | ● |

تقدیم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلٰامُ عَلٰى سَيِّدِ
 الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
 إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدًا!

دین اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، اس کے تمام احکام افراط و تفریط سے پاک، انسانی فطری تقاضوں کے میں مطابق اور حد سے تجاوز کی ممانعت پر قائم ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو ناجائز شہوت رانی سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے تو اس کے فطری جذبات و خواہشات کی رعایت کرتے ہوئے اس کا کوئی جائز اور صحیح طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بقاء نس کا عقلی اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے کہ کچھ حدود و شرائط کی پاسداری کرتے ہوئے مردوزن کے اختلاط کی کوئی تجویز کی جائے، قرآن و سنت نے اس تجویز کو نکاح کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی جنسی تسلیم اور اس کی فطری خواہشات کی تکمیل کا ایک مہذب طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوزن کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکم دیا ہے:

﴿فَإِنَّكُمْ مَا طَابَ لِلّٰهِ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَثُلُثٌ وَرِبَعٌ﴾

”عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں، دو دو، تین تین اور چار چار سے تم نکاح کرلو۔“

رسول اللہ ﷺ نے امت کے نوجوانوں کو اس سلسلہ میں زبردست ترغیب دلائی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”اے نوجوانو! تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھے، وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو نیچا کرتا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے اور جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر

دے گا۔ ”

اس طرح رہبرامت نے نوجوانوں کے فطری جذبات کوشاندار طریقہ سے محفوظ کیا اور ان کی عفت و عصمت اور شرم و حیا کی حفاظت کے لیے بہترین علاج تجویز فرمایا ہے۔ ہم مسلمان نکاح اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ کوئی ہماری ملکی روایت ہے یا ہماری برادری کا کوئی رواج ہے بلکہ ہم اس فریضہ کو اس لیے سرانجام دیتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء ﷺ کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آنِوًا جَآءَ وَذُرَيْثَةً﴾

”ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان تمام کو ہم نے یوں بچوں والا بنایا تھا۔“

اس طرح انبیاء کرام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ تھے اور ان کا طرز عمل بہترین اسوہ حست تھا، لہذا انہوں نے خود بھی بکثرت شادیاں کیں اور امت کو بھی اس مضبوط حصار میں آنے کی وصیت فرمائی۔

بہر حال نکاح انسان کو بد کاری، بے حیائی، جنسی آلودگی اور شیطانی وساوس سے محفوظ رکھتا ہے، طرفین میں مودت و محبت، راحت و سکون اور ان کے دین کی تکمیل کا ذریعہ اور دو خاندانوں میں قربت، محبت اور اتحاد و اتفاق کا خسان ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پیچان کی نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ آنِوًا جَآءَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

”اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے ذریعے سکون واطمینان حاصل کرو پھر اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی۔“

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ ازدواج کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری

تعالیٰ ہے:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا﴾

”وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس سے نسب و سرال کا سلسلہ چلایا۔“

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیٹی بہو بن کر آتی ہے تو اس سے نسبی رشتہ داری مستحکم ہوتی ہے اور جب ہماری کوئی بیٹی دوسروں کے ہاں بہو بن کر جاتی ہے تو اس کے ذریعے سرالی رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں قسم کی رشتہ دار یوں کے باہمی تعلقات سے پورا معاشرہ جائز ہے اور ایک ہی جیسا تمدن وجود میں آتا ہے۔ یہ نکاح کی برکات ہیں کہ اس کے ذریعے ایک اجنبی اپنا اور ایک بیگانہ یگانہ بن جاتا ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر ایک مرد کسی کا باپ اور کسی کا بیٹا بنتا ہے، کسی کا دادا اور کسی کا پوتا ہوتا ہے، کسی کا اماموں اور کسی کا چچا بن جاتا ہے، کسی کا بھائی اور کسی کا بہنوئی قرار پاتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر ایک عورت کسی کی ماں، کسی کی دادی، کسی کی نانی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن بنتی ہے۔ گویا تمام تعلقات نکاح کی پیداوار ہیں، انہی تعلقات سے انسان مہر و محبت، الفت و مودت، ادب و تمیز، شرم و حیا، عفت و عصمت اور پاکیازی سیکھتا ہے، اگر نکاح کو ہٹالیا جائے یا نکاح کی رسم تو ہو لیکن اس کے حقوق و آداب اور حدود و شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اس سے جو معاشرہ تشکیل پائے گا، اس میں الفت و محبت، ہمدردی و نعمگاری اور خوش خلقی کے بجائے ظلم و زیادتی، سرد مہری، بے شرمی اور بے حیائی کا دور دورہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے ان تمام مذموم صفات کی روک تھام کی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا قُتِّلُواْ يُبَكِّلُ الَّذِي خَلَقَهُمْ فِيْنَ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَالْتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ يٰهُوَ الْأَكْرَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا﴾

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا پھر اس جوڑے کے ذریعے بہت سے مردوں

اور عورتوں کو پھیلایا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتوں کے حقوق کا الحاظ رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا انگر ان ہے۔“ اس آیت کریمہ کو عقد نکاح کے موقع پر بھی پڑھا جاتا ہے تاکہ رشتہ نکاح کی یہ ذمہ داری اور غرض ذہن میں تازہ ہو جائے کہ یہ رشتہ تعلقات جوڑنے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے، کائنے کے لینے نہیں اور یہ چھوٹا سا خاندان جو آج وجود میں آ رہا ہے یہ یہی تجربہ گا ہے، اگر وہ اس چھوٹے سے کبھی کا حق ادا نہ کر سکا تو خاندان، معاشرہ اور پوری انسانی دنیا کا حق بھی ادا نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بے شمار صالح اور منافع کے حصول کے لیے نکاح مشروع فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا زمین میں خلیفہ ہے، اس بارخلافت کو اٹھانے کے لیے مضبوط، صالح اور بلند کردار کے حامل لوگوں کی ضرورت تھی جو صرف اور صرف شرعی نکاح سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ نکاح کے بغیر پیدا ہونے والے لوگ اس اعلیٰ منصب کے اہل نہیں ہو سکتے، لہذا صالح نسل کے بقا کے لیے نکاح بے حد ضروری ہے، یہی صالح نسل خلیفۃ اللہ بنے گی اور اپنے والدین کے لیے زینت اور ان کی آنکھوں کی مختنڈک ہو گی اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد یہ ان کے لیے بہترین کمائی ثابت ہو گی، جب وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔

بہر حال اسلامی شریعت کی یہ خوبی ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے مطالبات کی نئی نہیں کرتی بلکہ ان کے حصول کے جائز ذرائع ہیا کرتی ہے۔ ہمارے رجحان کے مطابق نکاح کا سب سے بڑا فائدہ گناہ کی زندگی سے حفاظت اور جنسی خواہشات کی جائز ذریعے سے تکمیل ہے۔ نکاح کرتے وقت یہ مقصد پیش نظر رہنا چاہیے، اس کے علاوہ باقی فوائد خود بخود حاصل ہو جائیں گے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور اس سے روگردانی کرنے والے سے اپنا تعلق ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”نکاح میر اطریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقہ پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔“

”نکاح میرا طریقہ ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہوی بچوں والی زندگی برکرنا اسلام کا ایک اہم اصول ہے جبکہ یہود و نصاری اور ہندوؤں کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے ہاں غیر شادی شدہ زندگی گزارنا اور بزرگ خویش ریاضت و عبادت میں مشغول رہنا قابل تعریف خیال کیا جاتا ہے۔ نکاح کا ایک روحانی فائدہ یہ بھی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کر کے انہیں اسلامی معاشرہ کے مفید ارکان بنایا جاسکتا ہے۔ نکاح کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کا درج ذیل ارشاد گرامی بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔“ *

اس کا مطلب یہ ہے کہ دو خاندانوں میں اگر دوستانہ تعلقات ہوں تو انہیں قائم رکھنے اور مضبوط رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے رشتہ لینا دینا چاہیے نیز کسی مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہو جائے تو ناجائز تعلقات قائم کرنے کے بجائے نکاح کا جائز تعلق قائم کر لینا بہتر ہے۔ اس سے محبت والفت میں پچھلی اور اضافہ ہو گاتا ہم اس میں نکاح کی شرائط یعنی عورت کے سرپرست کی اجازت، حق مہر، ایجاد و قبول اور گواہوں کی موجودگی وغیرہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ بہر صورت نکاح باہمی محبت والفت کا موثر ترین ذریعہ ہے اور نکاح انسان کے لیے باعث راحت و سکون ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے اور آدمی کو بد کاری سے بچاتا ہے۔ میاں یہوی کے تعلق میں یہ ضروری تھا کہ کسی ایک کو سربراہی کا درجہ دیا جائے اور اس حساب سے اس پر ذمہ داریاں بھی ڈالی جائیں، ظاہر ہے کہ فطری برتری کے اعتبار سے اس منصب کے لیے شوہر ہی زیادہ موزوں تھا۔ چنانچہ شریعت میں گھر کا سربراہ مرد ہی کو فرادریا گیا ہے اور بڑی ذمہ داریاں اسی پر ڈالی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **«الْيَجَّالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ»** ”مرد، عورتوں کے سربراہ اور ذمہ دار ہیں۔“ *

اس سلسلہ میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر کے سربراہ اور ذمہ دار نیز سرتاج کی حیثیت سے شوہر کی بات مانیں اور یہوی ہونے کی حیثیت سے جو مخصوص خانگی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کی اوائلی میں کوتاہی نہ کریں چنانچہ انہیں کہا گیا:

﴿فَالصَّلَاحُ قِبْلَتُ حِفْظِ الْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ﴾ ﴿١﴾

”نیک بیویاں، اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہوتی ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں بھی اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔“

لیکن اس سربراہی کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس سربراہی کو اللہ کے موآخذہ اور محاسبہ سے بے پرواہ کر عورتوں پر استعمال کریں، وہ اس معاملہ میں اللہ سے ڈریں چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”لوگو! اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے۔“ ﴿٢﴾

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کی بیوی بنتی ہے تو اسے اللہ کی امان اور پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر شوہران کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو اللہ کی دی ہوئی امان کو توڑے گا اور اس کے ہاں وہ محرم ٹھہرے گا۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ جملہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے اور اس میں ان کے سربراہ شوہروں کو تمنی خست وارنگ ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاو کمال ایمان کی علامت ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاو سب کے ساتھ بہت اچھا ہو اور خاص کر اپنی بیوی کے ساتھ جس کا رویہ انتہائی لطف و محبت کا ہو۔“ ﴿٣﴾

آدمی کے اچھے یا بُرے ہونے کا معیار اور رشتانی یہ ہے کہ اس کا اہل خانہ کے ساتھ برتاو کس طرح کا ہے؟ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے حق میں بھی اچھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس ہدایت کو زیادہ موثر بنانے کے لیے خود اپنی مثال پیش فرمائی کہ اللہ کے فضل سے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاو کرتا ہوں چنانچہ حضرت عائشہؓ نے اسی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وَآدِمٌ تَمْ مِنْ سَعَةِ أَنْ يَكُونَ حَسْنَةً لِّبَنِتِهِ“ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔“ ﴿٤﴾

﴿١﴾ النساء: ٣٤۔ ﴿٢﴾ مسلم، الحج: ٢٩٥٠۔

﴿٣﴾ جامع ترمذی، الایمان: ٢٦١٢۔ ﴿٤﴾ ترمذی، المناقب: ٣٨٩٥۔

واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ انتہائی دلچسپی اور دلداری کا تھا جس کی ایک دو مشالیں پیش خدمت ہیں۔

۱) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھی، ہمارا پیدل دوڑ میں مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد ایک دوسرے موقع پر جب میرا جسم بھاری ہو چکا تھا، پھر ایک مرتبہ دوڑ میں ہمارا مقابلہ ہوا تو آپ جیت گئے اور آگے نکل گئے اس وقت آپ نے فرمایا: ”یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا۔“ * ۲)

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا گھر بیویوں میں انداز انتہائی ملاجمت اور الفت بھرا ہوتا تھا، بلاشبہ بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کا دل خوش کرنے کی یہ ایک اعلیٰ مشال ہے اور اس میں ان لوگوں کے لیے خاص سبق ہے جن کے نزد یہ دین میں اس طرح کی تفریحات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ گھر میں ہر وقت سنجیدگی طاری کیے رکھنا درست نہیں بلکہ بیوی پچوں سے مناسب مراح اور ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کسی کی بزرگی کے منافی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ یہ ایک سفر کا واقعہ ہے، اس وقت رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ آگے نکل جاؤ، اس کے بعد دو مرتبہ دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ *

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت کا شرف حاصل ہوا تو وہ کم سن تھیں۔ آپ ان کی کم سی کا خیال کرتے ہوئے ان کو دل گلی کے موقع فراہم کرتے تھے جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

۲) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم! میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ایک روز جب شیلی لوگ مسجد میں نیزہ بازی کے جہادی کرتبا ہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کیا اور میرے جھرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، میں آپ کے کندھے اور کان کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی آپ میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔

آپ فرماتی ہیں کہ تم اندازہ کرو کہ ایک نو عمر اور کھیل کو دے دلچسپی رکھنے والی کا کیا مقام

* ابو داود، الجہاد: ۲۵۷۸۔

** مسند امام احمد، ج ۶، ص: ۳۹۔

تھا؟ ۲ یہ واقعہ بھی بیویوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی حسن معاشرت اور ان کی دلچسپی اور دلداری کی اعلیٰ مثال ہے اور اس میں صوفی مزاج لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے۔

ہمارے ہاں معمولی بات پر بیوی کو زد کوب کرنے کا عام رواج ہے، ایسے سخت گیر حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب اس قسم کی مارپیٹ کے متعلق علم ہوا تو آپ نے فرمایا: ”ہمارے ہاں عورتیں بہت زیادہ آئی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں ایسے لوگ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں۔“ ۳

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ اپنی کسی لوٹنڈی غلام کو مارا۔ کبھی اپنی بیوی کو زد کوب کیا۔ بلکہ آپ نے تو اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی نہیں مارا۔ ۴

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی رفیقة حیات، بچوں اور نوکروں کو جسمانی سزادینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خاوند ظلم کرے گا، حد سے تجاوز کر کے بلا وجہ اپنی شریکہ حیات کو مارے پیٹھے گا تو وہ ظالم ہے جس کا اسے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ بیوی کا ساتھ چونکہ زندگی کا ساتھ ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف نازک پرنا جائز بخختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ جائز بخختی سے بھی گریز کیا جائے تو بہتر ہو گا، لیکن بعض اوقات پھول کی مہک سے خود کو معطر کرنے کے لیے کافنوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے، یا شہد سے لطف اندوز ہونے سے پہلے زہر میلے ڈالنے اپنے نزم و نازک جسم میں پوسٹ کرنا پڑیں یا گوشت کھانے کے لیے سخت ترین ہڈی سے نبردا آزمہ ہونا پڑے تو ایک مثالی خاوند کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ہم اسوہ نبوی اور سیرت صحابہ سے ایک ایک مثال پیش کرتے ہیں۔
۱) ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے ازواج مطہرات کے اخراجات کے متعلق بے جا مطالبات کی وجہ سے ایک مہینہ تک علیحدہ رہنے کی قسم اٹھا لی چنانچہ آپ ایک بالاخانے میں تشریف لے گئے تو وہاں یہ آیات نازل ہوئیں۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلَّذِينَ حَلَكُوكُنْتَ تُرْدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينْتُهَا﴾

۱) بخاری، النکاح: ۵۱۹۰۔ ۲) ابو داود، النکاح: ۲۱۴۶۔

۳) ابن ماجہ، النکاح: ۱۹۸۴۔

**فَتَعَالَيْنَ أَمْتَغْلِقَ وَأَسْرِحْلَقَ سَرَاحًا بَجْمِيلًا وَإِنْ لَكُنَّ تُرِدُنَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ۱**

”اے نبی! اپنی ازواج سے کہہ دیں، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت ہی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور دار آخرت چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکو کار خواتین کے لیے بہت اجر تیار کر رکھا ہے۔“

اس خاموش احتجاج کا یہ فائدہ ہوا کہ جب آپ انہیں دن کے بعد بالا خانہ سے نیچے آئے تو آپ نے پہلے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: ”میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں کہ تجھے اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔“ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیا بات ہے؟ آپ نے مذکورہ بالا آیات پڑھ کر سنا دیں تو انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ ۲
اگر کوئی خاوند کٹھن حالات میں اللہ کی مدد کا طالب ہے تو اسے خود کو رسول اللہؐ ملکی قبول کی سیرت کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔

۳) رسول اللہؐ ایک مرتبہ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہؓ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علیؓ کو وہاں موجود نہ پایا۔ آپ نے دریافت فرمایا: ”وہ کہاں ہیں؟“ حضرت فاطمہؓ نے عرض کیا، میری ان سے کچھ چپکاش ہو گئی تھی، اس لیے وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں اور میرے پاس انہوں نے دو پہنچیں گزاری۔ آپ نے کسی سے کہا جاؤ، دیکھو وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ مسجد میں لیئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہؐ خود مسجد میں گئے، دیکھا کہ حضرت علیؓ وہاں لیئے ہوئے تھے اور پہلو پر چادر اترنے کی وجہ سے مٹی لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہؐ جسم پر لگی ہوئی مٹی صاف کرنے لگے اور فرمایا: ”اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔“ ۴) حضرت علیؓ کو یہ کنیت بہت پسند تھی اور اس سے بہت خوش ہوتے

* ۱/۲۳ الاحراب۔ ۲۸-۲۹ مسلم، الطلاق: ۳۶۹۰۔ * صحيح بخاري، الصلوة: ۴۴۱۔

تھے کیونکہ اس کنیت سے انہیں رسول اللہ ﷺ نے پکارا تھا۔ ①

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی اختلاف یا ناراضگی کے موقع پر بیوی کو زد کوب کرنے کے بجائے خاموش احتجاج بہت کام دیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ایسے موقع پر بیوی کو گھر سے نکالنے کے بجائے ”قبر درویش بر جان درویش“ کے مصدق خاوند ہی مسجد میں ڈیرے ڈال لیتا، وہ کسی ہوٹل، ریسورٹ یا کلب خانہ میں نہیں جاتا تھا۔ اس کے برعکس اگر بیوی ناراض ہو جاتی تو وہ کیا کرتی اس کے متعلق ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: ”اے عائشہ! جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے پڑھ جاتا ہے اور اسی طرح جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔“ میں نے عرض کیا ہے آپ یہ کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ”محمد ﷺ کے رب کی قسم!“ اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم! حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کی قسم بالکل ثہیک ہے، میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں۔ ②

نیک سیرت بیوی کو چاہیے کہ خاوند سے ناراضگی کے وقت تعلقات اور بات چیت ختم کرنے کے بجائے وہ یہی طرز عمل اختیار کرے جو صدقہ یقینہ کا نات حضرت عائشہؓ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کے متعلق جو ہدایات دی ہیں ان کا خاص مقصد یہی ہے کہ یہ تعلق میاں بیوی دونوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوش گوارا و رسمت و راحت کا باعث ہو، اس سلسلہ میں آپ کی تعلیمات کا حاصل یہی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اپنے لیے سب سے بالاتر خیال کرے، اس کی وفادار اور فرمانبردار ہے، اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو خاوند کی خوشی سے وابستہ سمجھے۔ اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کا خیال کرے، اس کی قدر اور اس سے محبت کرے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام

لے، صبر و تحمل اور داشمندی سے اس کی اصلاح کے لیے کوشش رہے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کی راحت رسانی اور دلجموئی کے لیے بھر پور کوشش کرے۔ اگر میاں بیوی ان ہدایات پر عمل کریں گے تو یہ گھرانے کے لیے جنت کی نظیر بن جائے گا بصورت دیگر یہ گھر ایک جہنم زار ہو گا خواہ اس میں کتنی بھی سہولیات کیوں نہ ہوں۔

کچھ اس کتاب کے بارے میں:

بیوی خاوند کے تعلقات کو خونگوار کیونکر بنا لیا جاسکتا ہے؟ اس موضوع پر یہ کتاب انتہائی بیش بہا اور معلومات افزائے ہے لیکن عام طور پر اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ نیک بیوی کی خصوصیات کو اس مرد کے مطالعہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے جو شادی کا خواہش مند ہوتا ہے اور نیک خاوند کی امتیازی صفات اس عورت کے مطالعہ کے لیے بیان کی جاتی ہیں جو رشتہ ازدواج میں مسلک ہونے کا ارادہ رکھتی ہے حالانکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ عورت کو اس امر سے روشناس کرایا جائے کہ کس طرح وہ ایسی دربار بیوی بن سکتی ہے جو صرف نیک ہی نہ ہو بلکہ اس کی ادائیگی خوبصورت ہوں جن کے پیش نظر وہ خاوند کو اپنی زلف گردگیر کا اسیر بنائے اور خاوند کو یہ بات سکھائی جائے کہ وہ کس طرح ایک مسحور کن خاوند بن سکتا ہے جو اپنی بیوی سے حسن معاشرت اور اپنے خوبصورت طور و اطوار کی بنا پر اپنی رفیقتہ حیات کے دل کا مالک بننے کی صلاحیت رکھ سکے۔

”الزوج الساحر والزوجة الساحرة“ کے نام سے یہ کتاب عربی زبان میں ہے، جسے عرب کے ایک مشہور ماہر نسیمات اور تجویبہ کار عالم دین جناب پروفیسر ابو عبد الرحمن عمر و بن عبد المتعتم سلیم نے ترتیب دیا ہے۔ مجھے یہ کتاب میرے بڑے بیٹے حافظ ابوالقاسم محمد حماد سلمہ اللہ نے دکھائی کہ میں اس کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی ورق گردانی کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کا جلد از جلد ترجمہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرہ کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ برخوردار نے اپنی گھر بیلو، دعویٰ، تدریسی مصروفیات کے باوجود چند دنوں میں اس کا ترجمہ کر دیا اور ترجمہ کرتے وقت ایسا اندماز اختیار کیا کہ وہ طبع زاد تالیف معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم عمل میں برکت فرمائے۔ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میری

رفیقہ حیات ام محمد جو اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ تینتیس سال کا طویل عرصہ گزارا ہے، مجھے اس دوران ہاتھ اٹھانا تو درکنار آنکھ سے گھورنے یا زبان سے سخت سست کہنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ زندگی میں صرف تین مرتبہ خاموش احتجاج کرنے کی ضرورت پیش آئی، بعد میں راز کھلا کر میں خود ہی قصور و ارتحا اگر یہ کتاب پہلے میرے ہاتھ لگ جاتی تو شاید خاموش احتجاج کی ضرورت بھی پیش نہ آتی بہرحال ”ماشاء اللہ کان و مالم یشألم یکن و کان امر اللہ قدرًا مقدورًا“

مؤلف نے کتاب کا آغاز دو سوالات سے کیا ہے جو حسب ذیل ہیں:

اے شوہر نامدار! کیا تجھے کبھی اس سوال نے بے چین نہیں کیا کہ میں ایک پرکشش خاوند کیسے بن سکتا ہوں جو اپنی بیوی کے لیے دل کو مسحور کر دے اور اس کے دل کو اس انداز سے برائیخنگتہ کرے کہ وہ بہیشہ اسی کی سوچ میں مکن رہے اور ہر وقت اسی پر فریفہ اور اسی کی آتش شوق میں جلتی رہے۔

اے رفیقہ حیات! کیا تجھے کبھی اس سوال نے بے قرار نہیں کیا کہ میں کس طرح اپنے خاوند کے دل و دماغ کو اپنے قبضہ میں لے سکتی ہوں، اس کے جذبات کو اپنی حر آفرینی میں جذب سکتی ہوں کہ ہر گھڑی، ہر لمحہ اور ہر جگہ اسے میں ہی دکھائی دوں اور وہ آتے جاتے، اٹھتے، بیٹھتے، ہر وقت میرے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔

پھر مؤلف نے ان سوالات کا کتاب کے مندرجات میں بھرپور جواب دیا ہے، انہوں نے اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

پہلے حصے میں ان عدمہ صفات کو بیان کیا ہے، جن کے زیور سے آراستہ ہونا ایک مسحور کن خاوند کے لیے ضروری ہے اور دوسرا حصے میں ان اعلیٰ خصالیں کا ذکر کیا ہے جو ایک دل رہا بیوی کی زندگی کا جزو لا ینیفک ہونی چاہیں تاکہ ان دونوں کی زندگی ایسی زندگی بن جائے جس سے پیار و محبت، والہانہ شوق اور وارثی قلیقہ فریشگی کے سوتے پھوٹتے ہوں جو راحت و سکون اور رحمت و مودت کا باعث ہوں، تیسرا حصے میں چند ایسے مضامین کا اضافہ کیا ہے جن کا کتاب کے موضوع سے بڑا گہر اتعلق ہے، ان مضامین کے عنوان حسب ذیل ہیں:

- ☆ میل جول کے راز اور میاں بیوی کی نفیات
 - ☆ میاں بیوی کے باہمی میل جول میں تناقض
 - ☆ میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی کیسے جنم لیتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟
- کتاب کے آخر میں ازدواجی زندگی کو خشکوار بنانے کے لیے بڑی عمدہ اور سبق آموز چھ صحیحین بیان کی ہیں، مؤلف نے میاں بیوی کے تعلقات اور ان کی اہمیت کو بایں الفاظ اُجاگر کیا ہے:

”میاں بیوی کا یہ تعلق بھلی کی دو تاروں کی طرح ہے، اس تعلق کو دونوں تاروں کی ضرورت ہے، دونوں تاریں ملیں گی تو ان میں محبت کی رو بہہ پڑے گی، جس سےطمینان و سکون کی چک پیدا ہوگی اور جذب و شوق اور فریبنتگی کی حرارت آئے گی، پھر جب زوجین کے مابین یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کی خشکی، تازگی میں بدل جائے گی۔“

بہر حال یہ کتاب میاں بیوی کے تعلقات کو گہرا کرنے اور انہیں خشکوار بنانے کے لیے نجی کیمیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ مکتبہ اسلامیہ نے حسب روایت اسے شایان شان انداز میں شائع کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکتبہ اسلامیہ کے مدیر جناب محمد سرور عاصم اور اس کے روح رواں جناب حافظ محمد عباد کو اپنے ہاں اجر عظیم عطا فرمائے۔ نیز میرے سمیت، مؤلف اور مترجم کی محنت کو ذخیرہ آخرت بنائے اور ہم سب کو جنت فردوس میں اکٹھا کرو۔

”ایں دعا از من وا ز جملہ جہاں آمین باد“

طالب الدعوات

اب محمد عبد اللہ احمد

مرکز الدراسات الاسلامیہ میاں چنوں

0300-4178626

کیم فروری 2011
صفر 1432 ہر وز منگل 27

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِهِ سَبَاحَةٍ مِّنْ شَرِّ رَبِّنَا
أَنفُسُنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمَنْ
يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ:

اے شوہر نامدار!

کیا تجھے کبھی اس سوال نے بے چین نہیں کیا؟ کہ
میں ایک پرکشش خاوند کیسے بن سکتا ہوں جو اپنی بیوی کے دل کو محور کر دے، اس کے
جدبات کو ایسا برائیگزینٹ کرے کہ وہ ہمیشہ اسی کی سوچ میں مگن رہے، ہر وقت اسی پر فریفتہ ہو اور
اسی کی چاہت کی آگ میں جلتی رہے۔

اور اے رفیقہ حیات!

کیا تجھے کبھی اس سوال نے بے قرار نہیں کیا؟ کہ
میں اپنے خاوند کے دل و دماغ کو کس طرح اپنے قبھے میں کر سکتی ہوں؟ اس کے
جدبات کو اپنی سحر آفرینی میں کیسے جکڑ سکتی ہوں؟ ایسا کیونکر ہو کہ اس کی محبت میرے لیے اس
طرح مفطر ب و بے چین رہے کہ ہر گھری، ہر لمحہ اور ہر جگہ اسے میں ہی دکھائی دوں، اور آتے
جاتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میرے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔

محبت (Love)، احساسات و جذبات (Emotions)، اطمینان، پیار، فریضتگی،
چاہت اور دوسرے کے لیے وارثگی، یہ سب چیزیں آج کل کے دور میں قصہ پار یہ نہ بن چکی
ہیں، ان کی تو صرف یادیں ہی باقی رہ گئی ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو یہ سب ایسے خواب ثابت
ہوتی ہیں جو شادی اور خصتی کی صبح کو بیدار ہوتے ہی منتشر ہو جاتے ہیں۔

ازدواجی زندگی ایک مبارک بندھن ہے جس میں میاں یہوی ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط اور پختہ بنیاد پر بندھے ہوتے ہیں اور وہ بنیاد اللہ کا کلام اور رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ تمام ادیان اور سماوی وغیر سماوی مذاہب میں اسے ایک پختہ بیثاق کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ پختہ بیثاق جانین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ محبت و مودت، پہچان و شناسائی اور صبر و قربانی کا پیکر بن کر تعلق و رشتہ داری کے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ تاکہ اس تعلق کا شمرہ خاندان تک پہنچے، خاندان سے برادری، برادری و قبیلے سے معاشرہ، معاشرے سے جہاں حتیٰ کہ پوری انسانیت اس سے مستفید ہو۔ انسانیت کیا اس کا فائدہ تو حیوانات و جمادات تک بھی پہنچے گا۔

پتہ نہیں کیا وجہ ہے؟ میں نے دیکھا ہے اور بارہا دیکھا ہے کہ بہت سی وہ کتب جن میں اس انتہائی اہم موضوع کو زیر بحث لا یا جاتا ہے ان میں زیادہ تر اسلوب یہ ہوتا ہے کہ نیک یہوی کی خصوصیات اس مرد کے مطالعہ کے لیے پیش کی جاتی ہیں جو شادی کا خواہش مند ہو اور نیک خاوند کی خصوصیات اس عورت کے مطالعہ کے لیے بیان کی جاتی ہیں جو رشتہ ازدواج میں مسلک ہونے کا ارادہ رکھتی ہو، حالانکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ عورت کو اس بات سے روشناس کروایا جائے کہ وہ کس طرح ایسی یہوی بن سکتی ہے جو صرف نیک ہی نہ ہو بلکہ مسحور کن ہو، جو اپنی خوبصورت عادات و خصائص سے اپنے خاوند کے دل و دماغ کو مسحور کر دے۔

صالح انسان وہ نہیں ہے جو صوم و صلوٰۃ اور باقی عبادات کی ادائیگی کا پابند ہو اور بس۔ اس لفظ کا معنی و مفہوم اس سے کہیں وسیع تر ہے۔ یہ لفظ میں جوں، تعلق داری، اطاعت و فرمانبرداری اور نیکی و خیر خواہی کے تمام پہلووں کو اپنے اندر سمیئے ہوئے ہے، جیسا کہ قدیم محاورہ ہے:

”الدین المعاملة“

یعنی دین داری کی صحیح پہچان معاملات سے ہوتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی سنت اس کی موئید اور اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رض سے مروی ہے:

”ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! فلاں عورت کثرت سے نماز پڑھنے میں بہت مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، آپ نے فرمایا وہ جیجنی ہے۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! فلاں عورت (نعلی) نماز روزے کا اتنا اہتمام نہیں کرتی، صدقہ کرتی ہے تو پنیر کے چند ٹکڑوں کا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔“ *

جی ہاں! ضرورت اس امر کی ہے کہ

آدمی کو سکھلایا جائے کہ کس طرح وہ ایسا خاوند بن سکتا ہے جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ دل مودہ لینے والا ہو، جو اپنی یوں کے ساتھ حسن معاشرت اور خوبصورت طور و اطوار کی بنا پر اس کے دل کا مالک بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

ابوالجہم اور معاویہ بن ابوسفیان کا شمار جلیل القدر صحابہ میں سے ہوتا تھا، لیکن فاطمہ بنت قیس کے لیے نبی اکرم ﷺ کا اشارہ یہ تھا کہ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لے جو نسب میں ان دونوں سے کم تھے، یعنی اسامہ بن زید۔ وجہ یہ تھی کہ اسامہ بن زید کو نیکی و خیر خواہی، حسن معاشرت اور دینداری کا اوارف حصہ ملا تھا۔

چنانچہ آپ نے فرمایا:

”معاویہ تو ایک خاکسار آدمی ہے، اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں۔ اور ابوالجہم عورتوں کو بہت مارتا ہے، لیکن اسامہ بن زید (اچھا آدمی ہے)۔“
اس پر فاطمہ نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا: اسامہ! اسامہ! گویا کہ وہ اسے اپنے لاائق نہیں سمجھ رہیں۔

آپ ﷺ نے فاطمہ سے کہا:

”اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری تیرے لیے بہتر ہے گی۔“

فاطمہ کہتی ہیں: پھر میں نے اسماء سے ہی نکاح کیا اور نتیجہ بہت خوش اور آسودہ رہی۔ ॥
بہر حال حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں اسماء بن زید کی اچھی عادات، حسن
معاشرت اور ہر پہلو سے زوجیت کے حقوق کو مخواڑ کرنے کی بنا پر بہت خوش رہی۔
جب کہ آج کل کے اعداد و شمار کے مطابق صورت حال یہ ہے کہ جوڑوں کی اکثریت
ایسی ازدواجی زندگی بسرا کر رہی ہے جو میل جول اور تعلقات میں اکتا ہے، بے حسی، کامیابی اور
ستی سے بے بریز ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی بھی اس بندھن کو خرابی کے ان اسباب
سے بچانے کی فکر نہیں کرتا جو کسی مرحلے میں اسے خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اکثر
ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کا اہتمام نہیں کرتا کہ ابتداء سے ہی اپنے
درمیان قائم ہونے والے اس تعلق کو تقویت دینے کی تگ و دو کرے اور ایسی صفات اپنا کراس
رشته کو مضبوط کرے جنہیں دوسرا فریق پسند کرتا ہو۔

چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تعلق اور رشتہ بھندڑا پڑ جاتا ہے بلکہ بعض پہلووں سے بد نہاب
جاتا ہے، حالانکہ اس معزز و محترم رشتے کی نشاط اگیزی اور فروغ دونوں میں سے کسی کی طرف
سے کسی طویل کدو کاوش اور جدوجہد کا تھان ج نہیں ہوتا۔

پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا رشتہ بن جاتا ہے جسے صرف مصلحت اور ضرورت کی بنا پر بھایا جاتا
ہے، پیار، محبت، مودت، رحمت اور یگانگت سے یہ کسوں دور ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے
لیے وہ فریضگی جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور رشتے میں استقرار آتا ہے باقی نہیں رہتی۔
بیوی!

ظاہری آرائش وزیبائش کا کوئی اہتمام نہیں کرتی، چنانچہ خاوند اسے دیکھتا ہے تو ناگفہ
بہ لباس میں.....! اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ کی لگام ڈھلی چھوڑ دیتا ہے اور اس کی نظر
انہیں دیکھتی ہے جنہیں دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا طرف بیوی کی قدر و قیمت اس کی

صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثة لا نفقة لها، ح: ١٤٨٠ (٣٧١٢)۔
 سنن الترمذی: ١١٣٥؛ سنن ابن ماجہ: ١٨٦٩۔

نگاہ میں گر جاتی ہے اور بیوی کے معاملے میں وہ لا ابالی پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیوی بھی اس کے رویے کو محسوس کرتی ہے جس کی وجہ سے بیوی کے جذبات خاوند کے معاملے میں سرد پڑ جاتے ہیں۔

پھر یا تو زندگی کو زبردستی دھکیل کر گزارنا پڑتا ہے یا پھر کسی اور کی چاہت کے جذبات زندگی کی گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں۔ العیاذ باللہ اور خاوند!

بیوی کے اپنے بارے میں احساسات کو محبت اور پیار کے دو بول اور تعریف و مدح کے چند کلمات کہہ کر تقویت دینے اور گرم رکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا جس کی وجہ سے بیوی عام روٹین کی ازدواجی زندگی، یعنی خدمت، کھانا پکانا اور دھلانی صفائی وغیرہ کی عادی ہو جاتی ہے اور زوجیت کے باقی حقوق کا خیال رکھنے کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، جس سے میاں بیوی میں آہستہ آہستہ بدولی سرایت کرنے لگتی ہے۔

زوجین کے ماہین زندگی کے تمام پہلوؤں میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی کا یہ تعلق بھلی کی دونوں تاریں میں گی تو اس میں محبت کی بھلی اس تعلق کو دونوں تاروں کی ضرورت ہے، دونوں تاریں میں گی تو اس میں محبت کی بھلی کی رو بہہ پڑے گی جس سے اطمینان و سکون کی چمک پیدا ہو گی اور جذب و شوق اور فریغتی کی حرارت آئے گی، چنانچہ میاں بیوی کے ماہین یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اس کی خشکی اور پوست سربراہی و تروتازگی میں بدل جائے گی۔

یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک ان عادات و صفات اور خصائص کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے جن سے پیراستہ اسے دوسرا دیکھنا چاہتا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد وہ اس پر ثابت قدم بھی رہے تاکہ دونوں کے درمیان چاہت و محبت کے جذبات روزافزوں رہیں، یہ ایک ایسی قوت بن جائے گی جو خاندان کے تمام افراد کو کامیابی و کامرانی اور اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کی طرف لے جائے گی۔

میرے محترم بھائی اور عزت مباب، بہن!

یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اسے میں نے اس اسلوب پر ترتیب دیا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق و فرائض اور ایک ایک خصلت، خوبی اور صفت کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے۔

میں نے پہلے ان عمدہ صفات کو بیان کیا ہے جن کے زیر سے آراستہ و پیراستہ ہونا ایک خاوند کے لیے ضروری ہے اور بعد میں ان اعلیٰ خصال کا تذکرہ کیا ہے جو بیوی کی زندگی کا جز ولا نیفک ہونی چاہیں تاکہ ان دونوں کی زندگی ایسی زندگی بن جائے جس سے پیار و محبت، شوق و وارثگی، فریقگی و دیوانگی کے اپسے سوتے پھوٹیں جو اطمینان و سکون اور مودت و رحمت کا موجب نہیں۔

میں اللہ رب العزت کے ہنور دعا گوہوں کو وہ اس محنت و کاوش کو مبارک بنادے۔
اس سے میزان بھاری ہو اور ہر مطالعہ کرنے والے کے لیے مفید ہو، بیشک وہ پاک ذات ہے جو اس کا اختیار رکھتی ہے اور اس پر پوری طرح قادر ہے۔ والحمد لله رب العالمین

ابو عبدالرحمن عمر و عبد المنعم سلیم

مثال خاوند

مثالی خاوند

مسلمان، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ثابت قدم
صحت نکاح کی پہلی شرط اسلام ہے اور یہ نکاح کا ایسا رکن ہے جس کے بغیر نکاح ہوتا
ہی نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ قِنْ مُّشْرِكٍ
وَلَا أَنْجِبَمُّطَّ﴾

”مشرکین جب تک مومن نہ بن جائیں ان سے نکاح مت کرو، ایک غلام
مومن سے نکاح کرنا کسی مشرک سے نکاح کرنے سے بہتر ہے خواہ وہ مشرک
تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔“

کسی کافر اور مشرک کے عقد میں کسی مسلمان عورت کا ہونا درست نہیں، نہ ہی ایسا نکاح
ہو سکتا ہے۔ مسلمان عورت کسی کافر اور مشرک کے لیے کسی صورت حلال نہیں ہو سکتی۔
الغرض! ایک نیک، محور کن خاوند کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اپنے رب کی
فرمانبرداری پر ثابت قدم ہو، فرائض کا پابند، احکام الہیہ کی بجا آوری کرنے والا اور مکرات
سے اجتناب کرنے والا ہو۔

ایک آدمی جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے والا اور حدود
اللہ کو پامال کرنے والا ہو گا تو وہ دوسروں کے حقوق کو بالاوی ضائع کرے گا، ایسے مرد کے
ساتھ عورت قطعاً خوش نہیں رہ سکتی۔

جب کہ آج کل کی صورت حال یہ ہے کہ بوقت نکاح اس قسم کے سوال تو بکثرت
ہوتے ہیں:

☆ مرد کا خاندان کیما ہے؟

☆ اس کی الہیت و قابلیت کس درجہ کی ہے؟

☆ تعلیم کتنی ہے؟

☆ بنک بیلنس، جائیداد، پر اپنی کتنی ہے؟

☆ کیا اس کا اپنا گھر ہے؟

☆ کیا اس کی کارہے؟

☆ کاروبار کیا کرتا ہے؟ اور کیا؟ کیا؟ کیا؟ کیا؟

اور اگر نہیں پوچھا جاتا تو اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اخلاق و کردار، دینداری اور حسن

سلوک کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا!!

پھر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی کے سر پرست ایسے مرد کو قبول کر لیتے ہیں جو دین کو ضائع کرنے والا اور نمازوں کو بر باد کرنے والا ہو، حتیٰ کہ شرابی، جوے باز اور نشے کے عادی کو بھی صرف اس لیے قبول کر لیا جاتا ہے کہ ان کی نگاہ میں اس کامالی پلہ بھاری ہے، صرف یہ دیکھ کر اس کی دینداری اور خلق و اخلاق کی کوئی پروانہیں کی جاتی۔

خبردار! یہ لوگ شاید بھول گئے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کی قیمتی متاع ہیں، اگر یہ ان کے لیے صحیح اور صالح خادنوں کو منتخب کریں گے تو یہ متاع محفوظ ہاتھوں میں ہو گا، عفت میں ہو گا، خادند کی امانت میں ہو گا اور اگر غلط انتخاب کریں گے تو..... اس غلط اختیار میں جنم مصائب اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، عدالتی کا روا نیا اور فیصلے اس پر گواہ ہیں۔

کتنی ہی پاک باز بچیاں دیویٹ خادنوں کی وجہ سے حرام کاری میں پڑ گئیں!

کتنے ہی انمول موتی نشہ باز شوہروں کی وجہ سے ذلت و رسائی میں رل گئے! اور کتنے

ہی!

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزر، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا:

”اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیوارائے ہے؟“

حاضرین نے جواب دیا:

”یہ اس قابل ہے کہ اگر نکاح کا پیغام بصیحے تو نہ کراس کے ساتھ نکاح کیا جائے،“

سفرش کرے تو فوراً قبول ہو، بات کرے تو لوگ کان لگا کر سین۔“
ہل فرماتے ہیں کہ آپ خاموش رہے، اتنے میں ایک غریب مسلمان گزرا، آپ نے دریافت فرمایا:

”اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟“

جواب ملا:

”یہ تو اس لائق ہے کہ نکاح کا پیغام بھیج تو کوئی قبول کرنے کو تیار نہ ہو، سفارش کرے تو رد کردی جائے، بات کرے تو کوئی کان نہ دھرے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

چہل قسم کے لوگوں سے زمین بھری پڑی ہو تو بھی، دوسرا آدمی اکیلا، ان سب پر بھاری اور ان سے بہتر ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے شوہر نامدار:

اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری پر استقامت دکھا۔

ہمیشہ وہی خاوند اپنی بیوی کے ول کا مالک بنتا ہے جو اخلاقی طور پر صاف سترہ اہو، شریعت کا پابند ہو، احکام الہیہ کی بجا آوری کرنے والا اور منکرات سے بچنے والا ہو۔ عورت اپنے خاوند میں تکی اور استقامت دیکھنا پسند کرتی ہے۔ اس دولت پر وہ خود اپنے آپ پر فخر کرتی ہے اور یہی فخر وہ اپنی بھوپیلوں، سہیلیوں، گھروں والوں، جانے والوں، رشتہ داروں، حتیٰ کہ پوری دنیا کے سامنے جلتا تی ہے کہ میں فلاں نیک باز کی بیوی ہوں جو دینداری اور فضیلت کا مینار ہے۔

میں وہ ہوں کہ میرے خاوند نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے میری حفاظت کی، مجھے عزت دی، وہ اپنے خیالات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں، ہر کام میں، قیام و کوچ میں اور میری موجودگی و عدم موجودگی میں ہمیشہ میرے متعلق اللہ کے سامنے جواب دی کا

* صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الاکفاء فی الدین، ح: ۵۰۹۱، ۶۴۴۷؛ سنن ابن ماجہ: ۴۱۲۰۔

احساس زندہ رکھتا ہے۔

جب تو ایسا خاوند بن جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا فرماتیردار و اطاعت گزار ہو تو توہی وہ خاوند ہو گا..... جو صرف اپنی بیوی کو ہی نہیں..... تمام لوگوں کو اپنے جادو میں جکڑ لے گا۔

تو تجھے یہ سب مبارک ہو اور جن لوگوں کو تو ملا ہے انہیں تیرالمنا مبارک ہو۔

مثال خاوند

سدتِ نبوی پر ثابت قدم

اللہ جل شانہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَنْكِمُ الرَّسُولُ فَغَدُوْهُ وَمَا نَهِمُ عَنْهُ فَأَنْهَوْهُ﴾ ﴿١﴾

”جو چیز رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے باز رہو۔“

اسی طرح فرمایا:

﴿وَأَنَّ هَذَا صَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْتَهِيُ الْسُّبُلُ فَفَرَّقَ يَكُنُّ
عَنْ سَبِيلِهِ ذِلْكُمْ وَضَلَالُهُ لَعْلَكُمْ تَشْقَوْنَ﴾ ﴿٢﴾

”یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہو، دوسرے رستوں پر مت قدم رکھو
ورنہ وہ تمہیں صحیح راہ سے گم کر دیں گے، تمہارے لیے بس یہی وصیت ہے تاکہ
تم مقنی بن جاؤ۔“

اور آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کو اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو وصیت کرتے
ہوئے فرمایا:

((عليکم بسننی و سنة الخلفاء الراشدين المهدیین، تمسکوا
بها و عضوا عليها بالتواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل
محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله)) ﴿٣﴾

”میری اور میرے ہدایت یافتے خلافائے راشدین کی سنت اپنائے رکھنا، اسے
مضبوطی سے تھامنا، اس پر تنقی سے کار بند رہنا اور (دین میں) نئے نئے کام

﴿١﴾ ۵۹ / الحشر: ۷۔ ۶ / الانعام: ۱۵۳۔

﴿٢﴾ استکده صحیح، سنن ابی داود، کتاب السنۃ باب فی لزوم السنۃ، ح ۴۶۰۷؛ سنن الترمذی:
۲۶۷۶ وصححه ابن حبان: ۱۰۲ والحاکم، ۹۵ / ۱ و ۹۶.

کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔“

نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ((فمن رغب عن سنتی فليس مني)) جس شخص نے میری سنت سے منہ موز اتواس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ❶

اور آپ ﷺ کا ارشاد عالی شان ہے:

”جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا نیا کام کیا جو اس میں پہلے سے نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے۔“

پس ایک مسلمان کھاتا ہے تو سنت کے مطابق، پیتا ہے تو سنت کے مطابق، نکاح کرتا ہے تو سنت کے مطابق اور بیوی سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو سنت کے مطابق اور اشرف الخلوقات ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کی سیرت کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، حتیٰ کہ ہم بستری و صحبت میں، اولاد و نسل کے حصول میں اور اولاد کی تربیت میں بھی سنت کو ہی ملاحظہ رکھتا ہے۔ مسلمان کی ساری کی ساری زندگی، اعلیٰ سے اعلیٰ، ادنیٰ سے ادنیٰ، بڑی سی بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بات سیرت نبوی ﷺ کے عین مطابق ہوتی ہے، کیونکہ آپ ﷺ کی سیرت سب سے کامل، سب سے اکمل اور سب سے اعلیٰ و اشرف ہے۔

اور جب عورت اپنے خاوند پر سنت کے آثار اور سیرت نبوی ﷺ کے نقوش منقش ہوتے دیکھتی ہے تو اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جاتا ہے، خاوند کی محبت اس کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کے قرب، اس کی محبت اور اس کی رضا کی مثالی رہتی ہے اور انہائی چاہت، وارثی، دیواری، غیرت و حمیت اور مودت و رحمت کے ساتھ اپنے خاوند سے چھٹ جاتی ہے۔ پورے جسم اور دل و جان سے اس کے لیے آراستہ و پیراستہ ہوتی ہے اور حسن اخلاق و حسن معاشرت کے ذریعے سے اس کا تقرب حاصل کرتی ہے اور اطاعت و فرمانبرداری میں منہمک ہو جاتی ہے۔

اور پھر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ، سنت کے التزام اور اس پر ثابت قدمی کی وجہ سے ایک

* صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، رقم: ٥٠٦٣؛ صحیح مسلم: ۳۴۰۳ / ۱۴۰۱

شہزادے اور بادشاہ کی زندگی گزارتا ہے۔

جیسا کہ فاطمہ بنت قیس کے واقعہ میں منقول ہے، جب آپ ﷺ نے انہیں اسماء بن زید سے نکاح کا مشورہ دیا اور انہوں نے اسماء کو سیاہ رنگ اور آزاد کردہ غلام ہونے کی وجہ سے کتر سمجھا تو آپ نے فرمایا:

”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے حق میں بہتر ہے۔“ *

آپ ﷺ نے ایسا اس لیے فرمایا کہ اسماء بن زید اللہ کی فرمانبرداری پر ثابت قدم تھے اور سنت نبوی ﷺ کا خوب التزام فرماتے تھے۔

حتیٰ کہ فاطمہ کو کہنا پڑا کہ پھر میں نے ان سے عی شادی کی اور بہت فرحان و شادمان رہی، یعنی میں نے ان سے اس لیے شادی کی کہ آپ نے ان کی تعریف فرمائی تھی کہ وہ مقیع سنت ہیں، باوجود یہ کہ سیاہ رنگ اور آزاد کردہ غلام تھے، میں ان کے ساتھ بہت خوش رہی اور ان سے نکاح میرے لیے شادمانیوں کا سند یہ لایا۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں:

”آپ ﷺ نے انہیں اسماء سے نکاح کا اشارہ اس لیے دیا کہ آپ اسماء کی دینداری، فضیلت، حسن سلوک اور عمدہ عادات و شکال سے واقف تھے۔ اسی لیے آپ نے ان سے نکاح کی نصیحت کی، لیکن جب فاطمہ نے ان کے آزاد کردہ غلام ہونے اور رنگ کے انتہائی سیاہ ہونے کی وجہ سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو آپ نے بارہ انہیں اسماء ہی سے نکاح کی ترغیب دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کی بھلائی اسی میں ہے اور حقیقت بھی یہی ثابت ہوئی۔“ *

مثال خاوند

حسن اخلاق کامال ک

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((اکمل المؤمنین یہ ماننا احسنہم خلقاً و خیارہم خیارہم لنساء هم)) ﴿۱﴾

”اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور ان میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔“

اور اس کے مقابلے میں (بطور عید) آپ ﷺ نے فرمایا:

((یا عائشہ! ان شر الناس منزلةٌ عند الله يوم القيمة من ودعه،

او ترکه الناس اتقاء فحشه)) ﴿۲﴾

”اے عائشہ! روز قیامت اللہ کے ہاں سب سے بر ا مقام اس شخص کا ہو گا جسے لوگوں نے اس کی بدگوئی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔“

اسی طرح آپ نے فرمایا:

((یا عائشہ! ایا ک والفحش، ایا ک والفحش، فان الفحش لو کان

رَجُلًا لکان رجل سوء)) ﴿۳﴾

”اے عائشہ! شخص کلام سے بچو، بدگوئی سے پرہیز کرو، پس اگر بدگوئی کو آدمی بنایا جاتا تو وہ بہت برا آدمی ہوتا۔“

اس لیے محور کن شوہرو ہے جو اپنے حسن اخلاق، عمدہ اوصاف اور خوبصورت عادات

* استادہ حسن، مستند احمد، ۲۰۰/۲، رقم: ۷۴۰۲ واللفظ له، سنن ابی داود: ۴۶۸۲؛

سنن الترمذی: ۱۱۶۲؛ ابن حبان: ۱۹۲۶؛ المستدرک للحاکم، ۳/۱۔ ۲ صحیح بخاری،

کتاب الادب، باب لم یکن النبی ﷺ فاحشاً ولا متفاحشاً، رقم: ۶۰۳۲، ۶۰۵۴؛ صحیح

مسلم: ۲۵۹۱ (۶۵۹۶)؛ سنن ابی داود: ۴۷۹۱؛ سنن الترمذی: ۱۹۹۶۔

* استادہ حسن، کتاب الضعفاء للعقیلی، ۸۵/۳ رقم: ۱۰۰۵، ۱۰۰۵؛ الصحیحة

لللبانی: ۵۳۷۔

و خصال سے اپنی بیوی کو سحر زدہ کر دے، اس کے وجدان کو پچھا دے اور تشكیلی و آسودگی ہر قسم کے حالات میں اپنی مشتمی اور عمدہ گفتگو سے اسے خوشگواری کا احساس دلانے، ہر وقت اسے اپنی قربت میں رکھے اور احساس دلانے کہ اسے بڑا مقام اور عزت حاصل ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((استوصوا بالنساء خيرًا))

”لوگو! عورتوں کے معاملے میں بھلائی و خیر خواہی کی وصیت قبول کرو۔“

اچھے اخلاق کا حامل خاوند اپنی طرف سے اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اس کے حق کو پہچانتا ہے، دین و دنیا کے معاملات میں اس کی معاونت کرتا ہے، ہمیشہ اسے نیکی و بھلائی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ جب آدمی کا اخلاق اچھا ہوتا وہ کبھی بھی اپنی رفیقہ حیات کو تکلیف سے دوچار نہیں کرتا اور وہ (بیوی) کبھی بھی اس کے منہ سے کوئی بازاری لفظ جو اس کی ساعت کو تکلیف پہنچائے یا کوئی گراہوا کلمہ جو اس کی ردائے حیا کو تاریک کرے، گالی یا بد کلامی نہیں سنتی جس سے اس کی قدر و منزلت مجرور ہو اور اس کی عزت و آبرو پر حرف آئے۔

حسن خلق کی علامات و آثار میں سے ایک بہت بڑی علامت رحمتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ضعف اور کمزوری پر رحم کھائے، اس کی کمی کو تابعی کو نظر انداز کرے اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی اور مسکراتے چہرے سے پیش آئے۔

اگر اس سے اچھائی کا صدور ہو تو اس کے سامنے خوشی کا انہصار کرے، اس کا سپاس گزار ہو اور اچھا بدلہ دے اور اگر اس سے کوئی لغزش، کوئی کمی کو تابعی ہو جائے تو درگزر کرے اور معاف کر دے، کیونکہ نیک عورت اچھی اور باوقار گفتگو سے ہی اپنی اصلاح کر لیا کرتی ہے۔

مثالی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینے والا اور اس کے حقوق کو پورا کرنے والا

نبی اکرم ﷺ اپنے پروردگار سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
 ((یاعبادی انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محترماً
 فلا تظالموا)) ﴿۱﴾

”اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور تمہارا آپس
 میں ظلم کرنا بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔“
 اس لیے ایک خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں عدل
 و انصاف سے کام لے، بالخصوص اگر اس نے ایک سے زیادہ بیویوں سے رفتہ ازدواج قائم کر
 رکھا ہے تو کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہونے سے گریز کرے، اپنے کرم و احسان کا جام کسی
 ایک کے ہاتھ میں دے کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ کھانے پینے میں، لباس میں، رات گزارنے میں،
 حتیٰ کہ سفر کرنے میں بھی ان کے درمیان عدل و انصاف کرے۔

نیز آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِّنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ
 عَزُوجَلٌ - وَكُلَّنَا يَدِيهِ يَمِينٌ - الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِهِمْ
 وَمَا وُلُوا)) ﴿۲﴾

”روز قیامت انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے منبروں پر برآ جان

﴿۱﴾ صحیح مسلم، کتاب البر والصلة باب تحريم الظلم، رقم: ۲۵۷۷ (۶۵۷۲)۔

﴿۲﴾ صحیح مسلم، کتاب الإمارة، باب فضيلة الامام العادل.....، رقم: ۱۸۲۷ (۴۷۲۱)،
 سنن النسائي: ۵۳۸۱۔

ہوں گے، حُجَّۃٌ کے دامیں جانب اور اللہ کے دنوں ہاتھ دامیں (مبارک) ہیں وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھروالوں میں اور اپنے زیر سایہ لوگوں میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔“

نبی اکرم ﷺ نے کسی ایک بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے یا کسی ایک کو، ان حقوق میں جو خاوند پر واجب ہیں، دوسری پر ترجیح دینے پر سخت زجر و توبخ کی ہے۔ آپ نے فرمایا: ((من کانت له امراتان، فمال الی احدهما جاءء یوم القيامة و شفه مائل)) ﴿۱﴾

”جس کی دو بیویاں ہوں اور ایک کی طرف اس کامیلان و رجحان زیادہ ہو تو روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو مغلوق ہو گا۔“

اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی اس کی تصدیق کرتا ہے:

﴿وَكُنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَا حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ
الْبَيْلِ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَسَتَقُولُوا فَيَأْتِ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا
رَحِيمًا﴾ ﴿۲﴾

”اگر تم چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن کسی ایک کی طرف پورے پورے مائل نہ ہو جایا کرو کہ دوسری معلق ہو کر رہ جائے، البتہ اگر تم اصلاح کی کوشش کرتے رہو اور ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بخششے والا بڑا مہربان ہے۔“

نبی اکرم ﷺ نے ہمارے لیے عدل و انصاف کے عین مطابق ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان برابری کی اعلیٰ ترین مثال چھوڑی ہے۔

﴿اسناده ضعیف﴾، سنن ابی داود، کتاب النکاح، باب فی القسم بین النساء، رقم: ۲۱۲۳؛ سنن الترمذی: ۱۱۴۱؛ سنن النسائی: ۳۳۹۴؛ سنن ابن ماجہ: ۱۹۶۹؛ مستند احمد، ۲۴۷/۲؛ المستدرک للحاکم، ۱۸۶/۲، قادة مدرس ہیں اور سماں کی صراحت نہیں ہے۔ اس روایت کا ایک شاہد اخبار اصحاب لابی نیم (۳۰۰/۲) میں ہے، لیکن وہ محمد بن الحارث الحارثی کی وجہ سے ضعیف ہے۔

﴿ النساء: ۱۲۹﴾

انس بن مالکؓ سے مردی ہے:

نبی اکرم ﷺ اپنی کسی الہیہ کے ہاں تھے کہ امہات المؤمنین میں سے ایک نے کھانے کی پلیٹ آپ کی خدمت میں ارسال کی۔ آپ کی اس بیوی نے جس کے ہاں آپ تشریف فرمائے تھے خادم کے ہاتھ پر ضرب لگائی جس سے پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی۔ نبی اکرم ﷺ نے پلیٹ کے تکڑوں کو اکٹھا کیا اور اس میں کھانا ڈالنے لگے اور فرماتے جاتے تھے:

”تمہاری ماں کو غیرت آگئی ہے۔“

پھر آپؓ نے خادم کو روکے رکھا تھا کہ جس الہیہ کے ہاں آپ تھے، اس سے پلیٹ منگوائی اور اس صحیح پلیٹ کو اس کے گھر بیج دیا جس کی پلیٹ ٹوٹ گئی اور ٹوٹی ہوئی پلیٹ دیں رہنے دی۔ *

الغرض جس خاوند کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں وہ ان سب کو تقسیم کے موقع پر صن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے متاثر کرتا ہے اور ان سب کے درمیان عدل و انصاف کی پوری کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ رات گزارنے، تقسیم اور سفر میں بھی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے فتحا فرماتی ہیں:

((کان رسول اللہ ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا)) *

”رسول اللہ ﷺ ہمارے ہاں قیام کی تقسیم کے معاملے میں ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے تھے۔“

اور سیدہ عائشہؓ سے ہی روایت ہے:

((کان رسول اللہ ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه)) *

❶ صحیح بخاری، کتاب المظالم، باب اذا كسر قصة او شيئاً غيره، رقم: ۲۴۸۱، سنن ابن داود: ۳۵۶۷۔ ❷ حسن، سنن ابن داود، کتاب النکاح، باب فی القسم بین النساء، رقم: ۲۱۳۵؛ السنن الکبریٰ للبیهقی، ۷/۷۵، ۷۴؛ مسند احمد، ۶/۱۰۷؛ المستدرک للحاکم، ۲/۱۸۶۔ ❸ صحیح مسلم، کتاب التوبۃ، باب فی حدیث الافک۔ رقم: ۲۷۷۰ (۷۰۲۰) واللطف له، صحیح بخاری: ۵۲۱۱۔

”رسول اللہ ﷺ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان
قرعہ اندازی کیا کرتے تھے۔“

اسی طرح نیک خاوند یوں کے تمام حقوق پورے کرتا ہے، خاص طور پر ایسے حقوق جن
کی بدولت وہ اس کے لیے حلال ہوئی ہے۔
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((أَحَقُّ مَا أُوفِيتُمْ مِّنَ الشَّرْوَطِ أَنْ تَوْفِوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الفروج))

”شرطوں میں سب سے زیادہ پوری کی جانے کا حق وہ شرطیں رکھتی ہیں، جن
کی بدولت تمہارا بیویوں سے ہمستری کرنا حلال ہوا ہے۔“
اور آپ نے فرمایا:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرُجُ حَقَّ الْمُضْعِفِينَ: الْبَيْتِمَ وَالْمَرْأَةَ))
”اے اللہ! میں دو کمزوروں پیغمبر اور عورت کے حق کو پامال کرنا منوع اور حرام
قرار دیتا ہوں۔“

❶ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الشروط فی النکاح، رقم: ۵۱۰۱؛ صحیح مسلم:
۱۴۱۸ (۳۴۷۲)؛ سنن ابن داود: ۲۱۳۹؛ سنن الترمذی: ۱۱۲۷؛ سنن ابن ماجہ: ۱۹۵۴؛ سنن
النسائی: ۳۲۸۳۔ ❷ استادہ حسن، سنن ابن ماجہ، کتاب الأدب، باب حق البتیم،
رقم: ۳۶۷۸؛ السنن الکبریٰ للنسائی: ۹۱۴۹، ۹۱۵۰۔

مثال خاوند

اپنے رفیقہ حیات کے راز کو راز رکھتا ہے

خاوندان مسائل کو جو اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ہوں انہیں سر عام بیان نہ کرے، ہاں اگر اصلاح کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو شرعی طریقہ اختیار کرے اور عورت کے سر پرستوں میں سے کسی کو حکم بنالے، جیسا کہ شریعتِ اسلامیہ میں اسے درست قرار دیا گیا ہے۔

لیکن کسی بھی حال میں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عورت کے راز افشا کرے یا بغیر کسی شرعی ضرورت کے اس کے عیوب ظاہر کرے۔

اور سب بے زیادہ سخت اور بڑا جرم یہ ہے کہ وہ ہم بستری کے راز بیان کرنا شروع کر دے اور دورانِ صحبت میں بیوی کے رعمل کو بتانے لگے۔

اس کی انہائی سخت ممانعت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی اور کبیرہ گناہ ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا أَشَرَّ النَّاسَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزَلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يَفْضُى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَفْضُى إِلَيْهِ، ثُمَّ يُنَشَّرُ سُرُّهَا))

”روز قیامتِ اللہ دربِ العزت کی بارگاہ میں جن لوگوں کا سب سے برا اور گھٹیا مقام ہو گا ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنی بیوی سے ہم آغوش ہوتا ہے، اور بیوی اس سے ہم آغوش ہوتی ہے، پھر وہ بیوی کے سر بست رازوں کو کھولنے لگتا ہے۔“

امام نووی فرماتے ہیں:

* صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب تحریم افشاء سر المرأة، رقم: ۱۴۳۷ (۳۵۴۲)؛ سنن ابن داود: ۴۸۷۰۔

”اس حدیث میں اس بات کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ آدمی وہ راز کھو لے جو دور ان صحبت میں اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ہیں، اس کی تفاصیل بیان کرے اور بتاتا پھرے بیوی نے اس دوران میں کیا کہا، کیا کیا وغیرہ وغیرہ۔“

اسی طرح مرد، عورت کے تمام رازوں کا، خواہ وہ مااضی سے متعلق ہوں یا حال سے، اس کی امیدوں، اس کے دکھوں، اس کی سعادت و خوش نصیبی کا جس کے لیے وہ تگ و دوکرتی ہے اور اس کی شقاوت و بد نصیبی کا جو اس کی قسمت میں ہو سکتی ہے، ان سب کا ایک خزینہ ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان تمام رازوں کو سنبھال کر رکھے اور کوئی ایسی بات کر کے جسے وہ پسند نہیں کرتی کہ لوگوں کے علم میں آئے، اسے ذلیل و رسوانہ کرے۔

اور اس تاک میں نہ بیٹھا رہے کہ موقع ملتے ہی اس پر غصہ نکالے یا اس سے عیحدہ ہو جائے یا اس سے منہ موڑ کر لوگوں کو وہ باتیں بتائے جو اس نے بطور امانت اپنے خاوند کے سپرد کی ہیں، جو کہ اس کے مااضی کی یادوں کا، حال کا اور مستقبل کی امیدوں اور آرزوؤں کا خاص انشاہ ہیں۔

مثال خاوند
اپنی بیوی کی طرف سے عذر کی تلاش میں رہتا ہے،
اس کی لغزشوں اور کوتا ہیوں کا مبتلاش نہیں ہوتا

اچھا خاوند بھدار اور دانا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی غلطی اور کوتا ہی کی تاک میں نہیں رہتا،
کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی تو اس شیطان کا مقصد ہے، جو باہم پیار و محبت کرنے
والے میان بیوی کے درمیان چیقلش پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔

عورت نرم دل اور جذباتی ہوتی ہے، اس پر جذبات کا غلبہ رہتا ہے، جذبات کے
ہاتھوں مجبور ہو کر بعض اوقات یہ ایسا کام بھی کر بیٹھتی ہے جو فکر سلیم کے خلاف ہوتا ہے، اس
طرح وہ تمہو کر کھا کر غلطی اور کوتا ہی میں جا پڑتی ہے۔

اب اچھے خاوند کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع ہے، وہ اس کی طرف مدد کا ہاتھ
بڑھاتا ہے اور اسے غلطی سے نکال لیتا ہے، اس کی کوتا ہی پر درگزر سے کام لیتا ہے اور کہتا ہے:

((لا تشریب عليك، الله يغفر لولك))

”لامات والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ مجھے اور مجھے معاف کرے۔“

وہ بیوی کی اس غلطی پر غصہ نہیں رکھاتا بلکہ مناسب الفاظ اور اچھی انگلیوں کے ذریعے سے
حق کی طرف اس کی راہنمائی کرتا ہے، وہ اسے احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں نا... تیرے
قریب، تیری بھلائی پر حریص، ہمیشہ تیر اخیال رکھنے والا۔

نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان بھی اسی بات کی طرف راہنمائی کرتا ہے:

((المرأة كالضلوع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت

بها وفيها عوج))

* صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب المداراة مع النساء، رقم: ۵۱۸۴؛ صحیح مسلم: ۳۶۴۶ / ۱۴۶۸

”عورت پسلی کی بڑی کی مانند ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تو زبیخو
گے اور اگر فائدہ انھاتا چاہو گے تو اس کی بھی میں بھی فائدہ انھالو گے۔“¹

عورتوں کے معاملے میں وصیت، جیسا کہ آپ نے فرمایا: عورتوں کے بارے میں خیر
خواہی کی وصیت قبول کرو، کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس سے کوتاہی سرزد ہو تو اس وقت اس کے
حسن اخلاق اور اچھے افعال کو یاد رکھو۔ جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((لا يفرك مومن مومنة، ان كره منها خلقا رضى منها آخر))²
”مومن مرد مومنہ عورت کے خلاف دل میں بعض نہیں رکھتا، اگر اس کی کسی
ایک صفت کو ناپسند کرتا ہے تو دوسرا کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے۔“

الفرق، کامن بعض وعداوت اور نفرت ہے، یعنی مومن مرد مومن عورت کے خلاف
دل میں کینہ اور نفرت نہیں پالتا، اگر کوئی چیز اس کے خلاف جاری ہے تو بہت سی اس کے حق
میں بھی جاری ہیں۔ ہم میں سے کوئی انسان بھی کامل نہیں ہے اور حکم غالب چیز کے مطابق لگتا
ہے۔ پانی بھی اگر کثیر مقدار میں ہو تو بخس چیز کے گرنے سے بخس نہیں ہو جاتا۔

جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لِيَلَّا، أَنْ يَتَخُونَهُمْ أَوْ
يَلْتَمِسْ عَشَارَتِهِمْ))

”رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی رات کو اچاک گھر
آئے، تاکہ گھر والوں کی کسی خیانت کو پکڑے یا کسی لغزش و کوتاہی کو تلاش
کرے۔“

1 صحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب الوصیة بالنساء، رقم: ۱۴۶۹۔ ۳۶۴۸۔

2 صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب کرامۃ الطرائق وهو الدخول لیلًا.....، رقم: ۷۱۵، ۴۹۷۰، ۴۹۷۹ واللفظ له، صحیح بخاری: ۱۸۰۱۔

مثال خاوند

حقیقت پسند ہوتا ہے، وہ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ اس کی

رفیقہ حیات ہر لحاظ سے نمونہ ہو

خوابوں کی تعبیر میں کامیابی کے لیے حقیقت پسندی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔

حقیقت پسندی ہی سیاں بیوی کے درمیان محبت اور ان کے رشتے کو استقرار بخشنے کی اساس ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ خاوند جو اپنی بیوی سے محبت کا دعویدار ہے، وہ اس سے مطالبہ کرے کہ اسے دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی بیوی اس کی نگاہوں میں حسین ترین عورت ہے۔

اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے کہ اسے دنیا کی ماہر ترین باور جن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی بیوی کا پکا ہوا کھانا اسے پسند ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم سر عورتوں میں وہ سب سے زیادہ متعدد اور تہذیب یافتہ ہو، بلکہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی رفیقہ حیات میں اس قدر شاشٹگی اور تہذیب موجود ہے کہ وہ متوازن زندگی گزار رہے ہیں۔

یہ بات بھی بعد از قیاس ہے کہ وہ اس سے خوبصورتی کے کسی خاص معیار کا مطالبہ کرے، مثلاً یہ کہ تمہاری آنکھیں نیلی ہونی چاہیں تھیں یا زرد، ہونی چاہیں تھیں، نرم و نازک بال ہونے چاہیں تھے اور سر اپا ایسا کہ ہر ایک کو فریقتہ کرے اور..... اور.....

بلکہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس کی اتنی خوبصورتی پر اضفی رہے جتنی خوبصورتی پر وہ اس وقت راضی تھا جب اسے پہلی بار دیکھا تھا تو وہ اسے پسند آئی تھی اور اس سے شادی کا ارادہ کر لیا تھا۔ تخلیق میں نمونے کا حصول بہت مشکل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خلقت میں درستگی اور نمونے کے قریب قریب ہونے کو دیکھا جائے۔

عورت کا حسن ایک نسبتی چیز ہے، اسی طرح اس کی تہذیب و ثقافت بھی، اور ان سب

چیزوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ خاوند کو کیا اچھا لگتا ہے، اور جو خاوند کو اچھا لگتا ہے اس کا تعلق خرق عادت اور ناممکنات میں سے نہیں ہونا چاہیے۔

☆ میری بیوی کا وزن اتنے کلوگرام زیادہ ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا۔

اسی بات ہے تو میں اسے کچھ جسمانی ایکسر سائز اور ورزشیں بتاؤں یا اسے خاص پرہیز وغیرہ کی تلقین کروں۔

☆ میری بیوی کے بالوں کا رنگ سیاہ ہے اور مجھے سرخ رنگ پسند ہے۔

اس صورت میں مجھے چاہیے کہ میں اسے سرخ مہندی استعمال کرنے کا کہوں تاکہ میرا مقصد پورا ہو جائے۔

☆ میری بیوی کی آنکھوں کا رنگ سیاہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہو.....

اب میں ایسی چیز کا مตلاشی ہوں جو مجھے حقیقت پسندی سے نکال رہی ہے، یہ بے جا خواہش ہے، میرے لیے اولیٰ بات یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ اسی حالت میں خوش رہوں، جس حالت میں میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو وہ مجھے اچھی لگی تھی، اس وقت اچھی لگی تھی تو آج نیلی آنکھوں کی خواہش کیوں؟

الغرض جن چیزوں کو شرعی اور طبی وسائل سے حاصل کیا جا سکتا ہو ان کے حصول کی خواہش میں کوئی حرج نہیں، اور اس حد سے باہر قدم رکھنا.....؟ یہ بے جا غلو ہے، بیوقوفی اور نادانی ہے اور ایسا بھداپن ہے جس سے بیوی کے ہاں شوہرا پنی کشش، اپنا سحر کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان مشکلات کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ معاملہ طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((اذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه

إلى نكاحها فليفعل))

* حسن، سنن ابی داود، کتاب النکاح، باب فی الرجُل ينظر إلی المرأة و هو يرید تزویجها، رقم: ۲۰۸۲؛ مسند احمد، ۳/۳۶۰، ۳۳۴؛ المستدرک للحاکم، ۲/۱۶۵.

”جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو پیغامِ نکاح بھیجے تو اگر ممکن ہو تو اس کی وہ چیز ضرور دیکھ لے جو اسے نکاح کی طرف مائل کر رہی ہے۔“

آپ کے ارشاد: ”اگر اس چیز کو دیکھ سکے جو اسے نکاح کی طرف مائل کر رہی ہے۔“ سے یہ بات اظہر من لفظ سے ہے کہ بعض صفات ایسی ہوں گی، سب کی سب نہیں۔ بعض اوقات آدمی کو عورت کی آنکھیں پسند آتی ہیں، اس وجہ سے وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے، بعض اوقات اسے عورت کا سراپا اچھا لگتا ہے، بعض اوقات اس کا فربہ جسم، بعض اوقات اس کے بال، بعض اوقات.....

اور یہ کہ خوبصورتی، تہذیب و ثقافت، حسب و نسب، مال وغیرہ..... کے وہ تمام معیار، جو اس نے قائم کر کے ہیں سب کے سب مل جائیں، یہ انتہائی مشکل ہے اور بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت سے اتنا ہی مطالبہ کرے جو اسے کافی ہو۔
 توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

مثالی خاوند عورت کے ظاہری سراپا سے زیادہ اس کے باطن پر توجہ مرکوز رکھتا ہے

پرکشش مثالی خاوند وہ بنتا ہے جو اپنی بیوی میں دینداری، حسن اخلاق اور اعلیٰ فضائل و خصائص پر نظر رکھے، صرف اس کے ظاہر کونہ دیکھے باطن پر بھی توجہ دے۔ ظاہری حسن دھوکہ ہوتا ہے اور باطنی حسن قیمتی ہوتا ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے خاوند کو چاہیے کہ ہر چیز سے پہلے اپنی بیوی کے دین اور اس کے خلق اخلاق کو دیکھے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((تسکح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها ولجمالها، ولدينها
فاظفر بذات الدين تربت يداك))

”عورت سے چار باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال، حسب و نسب، حسن و جمال اور اس کی دینداری کی بنا پر، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دینداری کو ترجیح دو۔“

آپ کا فرمان: ”تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں“ یہ اس بات پر سخت ڈانٹ ہے کہ صرف عورت کامال، حسب و نسب اور حسن و جمال دیکھا جائے اور دینداری پر توجہ نہ دی جائے، حالانکہ بہتر بلکہ بہترین یہ ہے کہ آدمی جس سے تعلق جوڑنے جا رہا ہے اس کا دین دیکھے۔ اور تعلق جوڑنے اور نکاح ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ اور سب سے پہلے عورت کی جس چیز پر توجہ دے وہ اس کی دینداری ہو۔ یہ دینداری عورت کا بھی اصل سرمایہ ہے اور مرد کا بھی۔ اگر دین درست اور قائم ہے تو سمجھو دونوں کی زندگی آسودہ ہے، اور اگر دین خراب ہو

* صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الأکفاء فی الدین، رقم: ۵۰۹؛ صحیح مسلم:

- سنن ابن داود: ۲۰۴۷؛ سنن التسانی: ۳۲۳۰؛ سنن ابن ماجہ: ۱۸۵۸ - ۳۶۳۵ / ۱۴۶۶

گیا تو سمجھو کہ دونوں کی زندگی خراب ہو گئی۔
 اگر دین میں فساد آجائے تو چہرے کی خوبصورتی کا کیا فائدہ؟
 اگر خلق اخلاق برآ ہو تو مال کس کام کا؟
 اگر کھلے عام یاد پر دہ خیانت کا ارتکاب ہوتا ہو تو حسب و نسب کیا معنی رکھتا ہے؟

مثال خاوند

اپنے رفیقہ حیات کو نیکی کی ترغیب دیتا رہتا ہے

اچھا شوہر اپنی بیوی کو نیکیوں میں بڑھ پڑھ کر حصہ لینے، سنتوں پر عمل کرنے اور عبادات میں عزیزمیوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے، وہ اسے فرانس کی صحیح طور پر، بروقت ادا نیگی پر ابھارتا ہے اور سننِ رواتب کے التزام کی تلقین بھی کرتا ہے اور موقع بھی فراہم کرتا ہے۔

☆ قرآن پاک کی تلاوت کا کہتا ہے، پڑھنے میں مدد دیتا ہے اور روزانہ اس کے ساتھ قرآن کا دور کرتا ہے۔

☆ صحیح شام کی دعاؤں اور ذکر اذکار پر مدد اور مت کی تلقین کرتا ہے۔

☆ مختلف اوقات کی دعائیں اور اذکار یاد کر اتا ہے۔ مثلاً بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، صحبت کی دعا، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا اور باقی مستحب دعائیں اور اذکار وغیرہ۔

☆ نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ اسے شوق دلانے کے لیے خود بھی ساتھ روزہ رکھتا ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے اسے روزہ رکھنے سے منع نہیں کرتا۔

☆ وقتاً فوتاً اس کے ایمان کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اگر ایمان بڑھ رہا ہو تو کم ہونے سے بچانے پر مدد کرتا ہے اور اگر کم ہو رہا ہو تو اضافے میں مدد دیتا ہے۔

☆ اچھے خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو صدقہ کرنے اور مال خرچ کرنے کی ترغیب دے اور بتائے کہ اللہ کے ہاں صدقہ کرنے والے کا کتنا عظیم مقام ہے۔

☆ دین کے جن امور سے بیوی ناواقف ہوان کی تعلیم دیتا رہے اور اس سلسلے میں حنکتب اور اہل علم کی سی ڈیزی کی ضرورت ہو مہیا کرے، اسی طرح ان تمام امور میں مدد و معافی ہو جو عورت کے لیے نیکی میں مدد گار ہوں۔

مثال خاوند

ایک مضبوط پناہ گاہ، مشکلات و مصائب میں عورت جس کا سہارا لے سکے

جب عورت کسی مشکل میں، یماری یاد کھلکھلیف میں ہوتی ہے تو اچھا شوہر اس وقت انہائی صبر، اعلیٰ کردار اور حسن اخلاق کے ذریعے اسے اپنی گرویدہ دیوانی بنالیتا ہے۔ یہی وہ اوقات ہوتے ہیں جب عورت کو اس کی نگاہِ رحمت و مودت کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس وقت کسی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔

پیار و محبت کی نظر، پرسہ کے کلمات اور محبت کا تھامیں مارتانہ سند راس کی تکالیف، دھون اور غمون کو کم کر دیتا ہے، اس کے رنج کو دور کرنے کا ذریعہ اور اس کی یماری کا نمد ادا ہوتا ہے۔ یہ نیک خاوند اس کی یماری کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اپنے حقوق و فرائض پورے کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی صحت اور حال کے متعلق دریافت کرتا رہتا ہے، اسے کھلااتا پلاتا ہے اور اگر وہ قضاۓ حاجت کے لیے نہ جاسکتی ہو اور کوئی قریبی عورت بھی موجود نہ ہو جو اسے قضاۓ حاجت کرو سکے تو اس معاملے میں بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر حکیم کے پاس لے جانے اور ادویات کی خریداری کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتا اور یماری کی حالت میں اس سے صحبت و ہمستری کا تقاضا کر کے اس پر بوجھ نہیں بنتا۔ اس کے لیے مہربان اور صابر بن کر رہتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد

اذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))

* صحيح بخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم: ٦٠١١؛ صحيح مسلم: ٦٥٨٦ / واللطف له۔

”اہل ایمان کی آپس میں محبت و مودت اور ایک دوسرے کے لیے نرم و گداز جذبات کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جسم کا اگر ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے شب بیداری اور بخار میں جتلارہتا ہے۔“

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

((من کان فی حاجة اخیه کان اللہ فی حاجته)) ﴿۱﴾
”جو آدمی اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں معروف ہوتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔“

نیز آپ ﷺ نے فرمایا:

((قال اللہ تبارک و تعالیٰ: وجبت محبتی للمحايين فی والمتجالسين فی والمتزاورين فی والمتباذلين فی)) ﴿۲﴾

”اللہ رب العزت فرماتے ہیں: میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، میری خاطر باہم زیارت کرتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔“

یہ تمام احادیث اگرچہ عام ہیں، لیکن ان کے عوام میں یہوی بھی شامل ہے، بلکہ یہ احادیث خاوند کے دیگر ساتھیوں اور رشتہ داروں کی بہبیت یہوی کے حق میں زیادہ جاتی ہیں۔

﴿۱﴾ صحیح بخاری، کتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم والمسلم لا يسلمه، رقم: ۲۴۴۲؛ صحیح مسلم: ۶۵۸۰/۲۵۸؛ سنن ابن داود: ۴۸۹۳؛ سنن الترمذی: ۱۴۲۶۔

﴿۲﴾ استنادہ صحیح، موطا امام مالک، ۹۵۳/۲، رقم: ۱۷۱۱ و قال ابن عبدالبر: ”وهو استناده صحيح“ التمهید (۱۲۵/۲۱)؛ مستند عبد بن حمید: ۱۲۵؛ مستند احمد، ۵/۲۲۳، رقم: ۲۲۰۳۰؛ ابن حبان: ۵۷۵؛ المستدرک للحاکم، ۳/۱۶۹، ۴/۱۶۸، ۲۶۹/۳۔

مثال خاوند

اپنے شریک حیات کے ساتھ نرم خوئی سے پیش آتا ہے اور
اس کی طرف سے تکلیف پر صبر کرتا ہے

ایک مثالی یا خوش نصیب جو زاکھلانے کے لیے یہ شرط قطعاً نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کبھی کوئی مشکل کھڑی نہ ہوئی ہو، اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ عورت ہمہ وقت اور ہمیشہ سیدھی رہے، اپنے خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری اور اسے راضی رکھنے میں کوئی دلیل فروغ کراشت نہ کیا ہو۔ شادی کے بعد بعض اوقات مشکل مرحلہ بھی آتے ہیں، مصالب کی بجلیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں اور بیوی راضی خوشی رہنے کے بعد ناراض بھی ہو سکتی ہے بلکہ مطیع و فرمانبردار ہونے کے بعد نافرمان بھی ہن سکتی ہے۔

ایسی صورت حال میں اصلاح کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟

اس وقت پانی کو دوبارہ اس کے رستے پر ڈالنے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی بیوی کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے اور یاد کرے جب عورت نے ایسے ہی حالات اور ایسے ہی اوقات میں اپنے خاوند کے لیے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، کس طرح اس نے ان حالات و اوقات میں خاوند کے غصے، تنگی اور سختی کو برداشت کیا تھا اور ان اوقات کو صبر اور نرم خوئی کے ساتھ گزار لیا تھا۔ اسی طرح اب خاوند کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس پر اور اس کی بیوی پر یہ جو کھنچن وقت آیا ہے تو بیوی پر صبر سے کام لے، بیوی کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ مدارات سے کام لے۔ مدارات سے مراد ہے سن سلوک اور نرم خوئی سے پیش آنا اور غلطیوں، کوتا ہیوں اور لغزشوں سے صرف نظر کرنا اور چشم پوشی سے کام لینا، کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((المرأة كالضلوع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت

بها وفيها عوج))

”عورت پلی کی ہڈی کی مانند ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو بھی کے باوجود بھی فائدہ اٹھالو گے۔“ اور آپ کافرمان ہے:

((لا یفرک مؤمن مؤمنہ ان کرہ منها خلقاً رضی منها آخر)) ﴿۱﴾
”مؤمن مردِ مؤمنہ عورت کے خلاف دل میں کینہ و بعض نہیں رکھتا، اگر اسے عورت کی ایک خصلت ناپسند ہوتی ہے تو دوسری سے راضی ہو جاتا ہے۔“

اس بنابر ایک اچھا اور نیک خاوند اپنی بیوی میں بھی کے ظہور کے وقت صبر سے کام لیتا ہے، اپنے قول فعل سے اسے دکھنیں پہنچاتا اور جب تک معاملہ اللہ کے حکم اور مرضی کی طرف لوٹ نہیں جاتا صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔

مثال خاوند

اپنے رفیقہ حیات کو تعلیم دیتا اور ادب سکھاتا ہے، اسے یوں
ہی نہیں چھوڑے رکھتا

یہ شادی کوئی سودا یا کاروبار نہیں ہے، جس میں مفادات کالین دین ہو، مہر کے عوض
ہمستری ہو یا خدمت کے بد لے میں کھانا پینا اور لباس وغیرہ کی سہولیات دی جاتی ہوں، ہرگز
نہیں بلکہ شادی تو زوجین کے درمیان پیار، محبت، سکون، رحمت اور الفت پیدا کرنے کا ایک
بندھن، ایک رشتہ، ایک تعلق ہے، تاکہ وہ یہ چیزیں حاصل کر کے یکسوئی کے ساتھ اللہ وحدہ
لاشریک کی عبادت کر سکیں۔

یہی وجہ ہے کہ خاوند کے لیے اپنی یوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ایک ضروری امر
بن جاتا ہے، جس میں کسی صورت غفلت یا کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بات بھی شک
سے ماوراء ہے کہ صحیح اور مسنون طریقے پر اگر کوئی اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہے تو اس
کے لیے شرعی علم بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ علم الہ علم سے سوال وجواب، ان کی مجلس
میں بیٹھنے اور ان سے طلب کرنے پر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ جبکہ عورتیں یہ سب کچھ کرنے سے
معذور ہیں۔ خاص طور پر اس پر فتن دور میں جس کا ہمیں سامنا ہے۔

زمانہ نبوت میں معاملہ مختلف تھا اس دور میں اگر کسی عورت کو دینی لحاظ سے کوئی مشکل
پیش آتی تو وہ اپنے خاوند کے ذریعے سے نبی اکرم ﷺ سے پوچھ لیا کرتی تھی یا آپ کی
ازدواج مطہرات سے دریافت کر لیتی یا خود ہی آپ سے پوچھ لیتی۔ اگرچہ عہد نبوت میں، فتنہ
وفساد بے ہونے کی وجہ سے، یہ کام آسان تھا، لیکن پھر بھی نبی ﷺ اس بات سے غافل نہیں
رہے کہ خاوند اپنی یوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ اگر یوں کو خاوند کے علم کی وجہ سے اپنی
کسی دینی مشکل کے حل اور دریافت کے لیے باہر نکلنے کی مشقت نہ اٹھانا پڑے تو یہ اس کے گھر
سے نکلنے سے بہت بہتر اور افضل ہے۔ اسی میں اس کی عزت کی حفاظت ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب أمن بنبيه وأمن
بحمد ﷺ، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه،
ورجل كانت عنده أمة، فأدبهما، فأحسن تأدبيها، وعلمهها
فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران)) *

”تین قسم کے لوگوں کے لیے دو ہر اثواب ہے۔ اہل کتاب میں سے وہ آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لا لیا اور محمد ﷺ پر بھی ایمان لا لیا، وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا حق بھی اور وہ آدمی جس کے پاس لوٹڈی ہو، وہ اس کی بہترین تربیت کرے، اچھی طرح علم سے آراستہ کرے اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دو ہر اجر ہے۔“

امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث پر یوں باب باندھا ہے:

”باب تعليم الرجل امته و اهله“

”یعنی آدمی کے اپنی لوٹڈی اور اپنی بیوی کو تعليم دینے کا بیان۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”لوٹڈی کے حوالے سے تو اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت نہ صحتی کے جگہ بیوی کے معاملے میں قیاس کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ کے فرائض اور رسول اللہ ﷺ کی سنن کی تعليم کا اہتمام کرنا لوٹڈیوں کی بنسخت آزاد اہل خانہ کے لیے زیادہ تاکید کا حامل ہے۔“ *

* صحیح بخاری، کتاب العلم، باب تعليم الرجل امته و اهله، رقم: ۹۷؛ صحیح مسلم: ۳۸۷ / ۱۵۴؛ سنن الترمذی: ۱۱۱۶؛ سنن ابن ماجہ: ۱۹۵۶۔ * فتح الباری، ۱ / ۱۵۱۔

مثالی خاوند اپنے صفائی سترائی، خوشبو اور لباس و پوشاک میں خوش ذوقی کا خاص اہتمام کرتا ہے

”نگاہ دل کی پیامبر ہوتی ہے۔“

اس نگاہ کی بدولت یا تو دل بیمار ہو جاتا ہے یا اسے دوائل جاتی ہے، دل کی صحت و سقم
اس نگاہ ہی کی مر ہوں منت ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے نکاح کا ارادہ رکھنے والے شخص کو حکم دیا کہ جس سے نکاح کا ارادہ
ہوا سے دیکھ لے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، اور جس طرح یہ حکم مردوں
کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مشروع ہے، کیونکہ جس طرح مرد کو عورت کی کچھ
چیزیں پسند ہوتی ہیں اسی طرح عورت کو بھی مرد کی کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی نظافت، اچھی مہک اور گھر
کے اندر اور باہر لباس کے حصین انتخاب کے ذریعے سے مسحور کیے رکھے۔ عورت مرد میں دیکھتے تو
بہتری ہی دیکھئے، سونگھے تو اچھی مہک اور خوشبو ہی محسوں کرے۔

خاوند کا فرض بتا ہے کہ لباس میں حصین انتخاب سے کام لے اور وہ لباس پہنے جو وقت کی
ضرورت کے مطابق ہو، بیوی کے ہمراہ سونے کے کمرے کا لباس (Sleeping Suit)
مختلف ہونا چاہیے اور خاص طور پر اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ اس وقت کی مناسبت سے ایسا
خوبصورت لباس منتخب کرے جو وضع قطع میں مختصر ہو، جس سے عورت کے دل و دماغ میں مرد کی
قربت کا شوق انگڑائی لے اور صحبت و ہمستری کی رغبت و خواہش پیدا ہو۔

اور گھر کے اندر عام حالات میں، بیوی اور بال بچوں کے درمیان گھر میلوں لباس زیب تن
کرے جو اس وقت کے لیے مناسب ہو، جس سے اس کا ستر محفوظ اور چھپا رہے اور ساتھ
ساتھ بیوی کی نگاہ کو بھا جانے والا بھی ہو۔ ایسا لباس نہ پہنے جو کٹا پھٹا، بے ہودہ، بوسیدہ، میلا

کچھیا، وہ بے دار یا داغدار ہو، بلکہ خوبصورت لباس منتخب کرے جو دل کو بھائے اور آنکھ کو اچھا لگے، کھلا ہو کر اسکی وجہ سے تکلف میں نہ پڑے۔

اور جب کام کے لیے نکلنے تو قد و قامت کے لحاظ سے پورا اور مکمل لباس پہنے، جس میں پُر وقار اور باعزت نظر آئے۔

اسی طرح جب بیوی کے ساتھ نکلنے تو بھی مکمل طور پر خوش لباسی و خوش پوشائی کا مظاہرہ کرے، ایسی صورت میں ہی عورت کو اپنے خاوند پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر آدمی لباس پر کوئی توجہ نہ دے، اس کے دل و دماغ میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو اور وہ پرانے کپڑوں میں نکل کھڑا ہو یا اس نے کام والے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، جو میلے ہو چکے ہیں یا ان سے بدبو آ رہی ہے تو ایسی صورت میں عورت کو بھی محسوس ہوتی ہے اور وہ تمبا کرتی ہے کہ کاش! میں اس کے ساتھ نہ نکلتی، اسے برے برے خیالات تنگ کیے رکھتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ کاش! زمین پھٹ جائے اور ہم دونوں میں سے ایک کونگل لے۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے، آپ نے ایک پرائندہ حال آدمی کو دیکھا جس کے بال کھرے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((اما کان یجد ما یسكن به شعره؟))

”اسے کوئی چیز نہیں ملی؟ جس سے یا اپنے بالوں کو سنوار لیتا۔“

اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور فرمایا:

((اما کان هذَا يَجِد ماء يغسل به ثوبه؟)) ❶

”اسے پانی نہیں ملا کہ اس سے اپنے کپڑے ہی وھولیتا؟“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((من کان له شعر فليکرمه)) ❷

”جس نے بال رکھے ہوں وہ ان کی تکریم کرے۔“

❶ استادہ صحیح ، سنن ابی داود ، کتاب اللباس ، باب فی المخلقان و فی غسل الثوب ، رقم: ۴۰۶۲؛ سنن النسائی: ۵۲۳۸؛ المستدرک للحاکم ، ۱۸۶ / ۴؛ ابن حبان: ۵۴۸۳۔

❷ استادہ حسن ، سنن ابی داود ، کتاب الرجل ، باب فی اصلاح الشعرا ، رقم: ۴۱۶۳۔

مثال خاوند

انی شریک حیات کا خرچہ بطریقہ احسن اٹھاتا ہے

خاوند پر بیوی کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ معروف طریقے سے اس کے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کا خرچہ برداشت کرے، اسی وجہ سے التدرب العزت نے بیوی پر نگرانی کا اعزاز خاوند کو دیا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے:

﴿أَلَّا يَرْجِعُ الْجَانِبُ إِلَيْهِ مِمَّ أَنْهَا فَلَمَّا فَضَلَّ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَبِيلَةً أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

”مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔“

اور معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم پر بیوی کے حقوق کیا ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا:

(أَنْ تَطْعَمُهَا إِذَا طَمِعَتْ وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْسَيْتَ) ②

”جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلائے اور جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے۔“

اور سعد بن وقار صاحب زین العابدین کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقْ نَفْقَةً تَبْغِيْ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتْ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا

تَجْعَلْ فِي فَيْيِ امْرَأَتَكَ)) ③

1 / النساء: ٣٤۔ ② استناده صحيح، سنن ابی داود، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة على زوجها، رقم: ٢١٤٢؛ سنن ابن ماجہ: ١٨٥٠۔ ③ صحيح بخاری، کتاب الایمان، باب ماجاء أن الأعمال بالنثنة.....، رقم: ٥٦؛ صحيح مسلم: ١٦٢٨۔ سنن ابی داود: ٢٨٦٤؛ سنن الترمذی: ٢١٦؛ سنن ابن ماجہ: ٤٢٠٩۔

”تو اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے جو بھی خرچ کرتا ہے اس پر تجھے اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقدمہ ڈالتا ہے اس پر بھی۔“

اسی طرح حضرت اُبَيْ بْنُ سُعْدٍ رض سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿(أَفَضْلُ دِينَارٍ يَنْفَقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٍ يَنْفَقُهُ عَلَى عِيَالِهِ)﴾

”سب سے افضل دینار وہ ہے جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔“

الغرض رفیقہ حیات کے بارے میں وصیت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا خلاصہ یہ ہے کہ خرچ کرنے کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کیا جائے اور بخشنے سے کام نہ لیا جائے۔ معاشرے میں مادی لحاظ سے جو عورتیں بیوی کے ہم پلہ ہیں انہیں جو ملتا ہے وہ اسے بھی ملنا چاہیے، اور اگر اس سے بہتر رویہ اپنایا جائے تو اس احسان کا بدلہ بھی اللہ کے ہاں احسان کی صورت میں ملے گا۔

الذریعۃ کا فرمان ہے:

﴿لَيَنْفُقُ ذُو سَعْدَةٍ قِنْ سَعْتَهُ ط﴾

”ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔“

❶ صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل النفقۃ علی العیال والمملوک.....، رقم: ۹۹۴
 (۲۳۱۰)، سنن الترمذی: ۱۹۶۶؛ سنن ابن ماجہ: ۲۷۶۰۔ ❷ ۶۵ / الطلاق: ۷۔

مثال خاوند

اپنی رفیقة حیات کے معاملے میں انتہائی غیرت مند ہوتا ہے
یوں ایک اعلیٰ نفس ہیرا اور چھپا ہوا موتی ہوتا ہے، اسے اجنبیوں کی نگاہوں اور بیمار
دولوں کی طمع کی میل سے میلانہیں ہونے دینا چاہیے، خاوند کے لیے یہ انمول سرمایہ ہوتا ہے، یہ
اس کی محبت ہے، یہی اہل ہے، یہی عزت، یہی حسن و جمال، یہی مال و دولت، یہی دنیا اور یہی
دین ہے۔

خاوند کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے عمدہ اعلیٰ چیز یہی ہے۔

ایک اچھا اور نیک خاوند اپنی یوں پر غیرت مند ہوتا ہے اور وہ اپنی یوں کو گدلا ہونے
اور باعث نگ و عار ہونے سے بچا کر اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔
صحابہ کے ہاں بھی غیرت کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، حضرت مغیرہ

بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ سعد بن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے گئے:

”اگر میں اپنی یوں کے ہمراہ کسی اجنبی مرد کو دیکھ لوں تو فوراً اس کی گردان اتار

دوں اور قطعاً درگزر سے کام نہ لوں۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

((أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنَا أَغْيِرُ مِنْهُ، وَالله أَغْيِرُ مِنِّي)) ﴿١﴾

”کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم! میں سعد سے زیادہ غیرت

مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔“

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”الغیرة“ غین کے فتح کے ساتھ ہے، اس کا اصل معنی روکنا ہے۔ اور آدمی کے اپنے
گھروں پر غیرت مند ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ انہیں کسی اجنبی کے ساتھ نظر بازی یا گفتگو

صحیح بخاری، کتاب الحدود، باب من رأى مع أمراته رجلاً فقتله، رقم: ۶۸۴۶۔

صحیح مسلم: ۱۴۹ (۳۷۶۴)۔

وغیرہ کے تعلق سے باز رکھتا ہے۔ یہ غیرت صفتِ کمال ہے، اسی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے خبردی کہ سعد بْن اغیرت مند ہے، میں اس سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بڑھ کر غیرت والا ہے۔“ *

خلاصہ یہ کہ اچھا خاوندوہ ہے جو انی یہوی پر غیرت کھانے والا ہو، اس میں کسی قسم کی برائی برداشت نہ کرے، خواہ اس کا سبب کچھ بھی ہو، بلکہ وہ اس کے اسباب و حرکات سے بھی یہوی کو بچا کر کے۔

یہوی کی موجودگی و عدم موجودگی کو اپنی نگرانی، حفاظت، توجہ اور خیال کے دائے میں رکھے۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جس شخص کو اپنے گھر والوں کے متعلق کسی غلط کاری کا اندیشہ ہو اور وہ صرف اس لیے چشم پوشی سے کام لے کر اس سے بڑا پیار ہے، یا اس لیے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاملہ عدالت تک پہنچ جائے گا اور اسے ان کا خرچہ وغیرہ دینا پڑے گا..... تو یہ شخص اس سے بھی بڑھ کر ذلیل ہے جو اس کی یہوی سے تعلق رکھتا ہے۔“

”جس آدمی میں غیرت ہی نہیں اس میں کوئی بھلانی نہیں۔“ *

مثال خاوند
اپنے رفیقة حیات کی تکریم کرتا ہے، اسے ذلیل و رسوانہیں
کرتا، نافرمانی کے وقت اچھے طریقے سے معاملہ سدھارتا ہے
عورت اگر درست رہے تو اچھا خاوند اسے عزت دیتا ہے، اور اگر نافرمانی کرے،
اطاعت و فرمانبرداری کی بجائے سرکشی کا مظاہرہ کرے، پھر بھی خاوند کو زیبائیں کہ اسے ذلیل
کرے، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے، بدسلوکی کا حسن سلوک سے اور غیر اخلاقی طرز کلام کا
بدلہ شاستہ اور مہذب گفتگو کے ذریعے سے دینا چاہیے۔

جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

((استوصوا بالسماء خيراً))

”عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت قبول کرو۔“ *

اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں:

﴿وَاللَّهُنَّ تَحْكَمُونَ لَثُورَهُنَّ فَعَطُوهُنَّ وَاهْبِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ؛ فَإِنْ أَطَعْنَاهُمْ فَلَا يَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْهَا كَبِيرًا﴾

”اور وہ عورتیں جن کی طرف سے تمہیں نافرمانی کا اندر یہ ہو انہیں وعظ و نصیحت
کرو، انہیں بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کی پٹائی کرو، اگر وہ تمہاری
فرمانبردار بن جائیں، تو ان پر زیادتی کے بھانے مت تلاش کرو۔ اللہ رب
العزت بلند شان، برائی والے ہیں۔“

گویا عورت اگر نافرمان بن جائے تو اللہ رب العزت نے مرد کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا
ہے کہ وہ اچھے انداز سے اس کی اصلاح کرے، ایسا انداز جس میں ایک طرف میاں یوں

* صحیح بخاری: ۵۱۸۶؛ صحیح مسلم: ۱۴۶۸، کما تقدم۔

دونوں کی بہتری ہو اور دوسری طرف اولاد کی بھلائی مدنظر ہو، جس سے طلاق کی بنا پر گھر کا اتحاد پارہ پارہ نہ ہو، نہ ہی افراد خانہ ہی کے درمیان فتنہ و فساو کا ایسا زہر پھیلے کہ ان اختلافات کی بنا پر زندگی گزارنا دو بھر ہو جائے۔ اور تیسرا طرف پورے خاندان و معاشرہ کی خیر خواہی مقصود ہو، کیونکہ معاشرے کی اکائیوں۔ مسلم خاندانوں۔ کا اتحاد اور ان کی مضبوطی خود اس کی قوت اور مضبوطی ہے۔

سابقہ آیت بتلاتی ہے کہ نافرمانی کے وقت عورت کی اصلاح اور تربیت کے بذریعہ کچھ مراحل ہیں۔ ان مراحل میں عورت کے لیے نرمی اور اس کی نافرمانی کے درجہ و کیفیت کو مذکور کھا گیا ہے۔ یہ مراحل حسب ذیل ہیں:

① وعظ و نصیحت:

جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ”فعظوهن“ یعنی انہیں وعظ و نصیحت کرو۔ وعظ و نصیحت میں ترغیب و تہیب سے کام لیتا چاہیے، اس میں بدگوئی کی قبیل سے کوئی بات نہ ہو، مثلاً گالی گلوچ، عار دلانا یا بہتان تراشی وغیرہ۔ کیونکہ وعظ و نصیحت کا مقصود ہی خیر و بھلائی اور شفقت ہوتا ہے، جیسا کہ اس فرمان الہی سے ظاہر ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ لَقُمْنُ لِابْيَهٖ وَهُوَ يَعْظُمُ﴾

”اور یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے برخود دار کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا۔“

اسی طرح وعظ و نصیحت کا مقصد نفع مند چیز کی نصیحت کرنا اور نقصان دہ سے ڈرانا بھی ہوتا ہے، ان سب کے ساتھ سب و شتم اور عار دلانے کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وعظ و نصیحت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آج کل کے خاوند کرتے ہیں۔ یہ جب اپنی بیویوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو گالی گلوچ اور سب و شتم کا ایسا زہر لگتے ہیں کہ پا کدا من خاتون کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔

حالانکہ وعظ و نصیحت تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یاد دلائی جائیں، انہیں

کے ذریعے سے ترغیب دی جائے، ذرایا جائے اور بتایا جائے کہ عورت کس طرح کے صنِ اخلاق کی حاملہ ہونی چاہیے اور مکمل طور پر خاوند کی مطیع فرمان بن کر رہنا چاہیے وغیرہ، اور ہاں یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ خاوند کو بیوی کا شکوئی شکایت ضرور سننا چاہیے۔ شکوئی شکایت نے اور دیکھیے، اگر وہ تجھی ہے تو اس کا فرض بتا ہے کہ اپنے آپ کو درست کرے، اپنی اصلاح کرے، اور اگر وہ غلطی پر ہے تو انہتائی پر سکون اور پر امن ماحول میں صحیح صورت حال اس پر واضح کر دے۔

بلکہ چشم پوشی اور غضن بصر سے کام لے، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ کو اور اپنے بعد آنے والی ساری امت کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

((المرأة كالضلوع، إن اقامتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت

بها وفيها عوج))

”عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر فاائدہ اٹھانا چاہو گے تو تجھی کے باوجود فاائدہ اٹھا لو گے۔“

چنانچہ جب بھی غصے میں بیوی کی کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو خوشی کے موقع کی خوبیاں یاد کر لے۔

جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((لا يفرك مؤمن من مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر))
”مؤمن مرد مومنہ عورت کے خلاف کینہ وعداوت نہیں رکھتا، اگر کسی ایک خصلت کو ناپسند کرتا ہے تو دوسرا پر راضی ہو جاتا ہے۔“

آپ کے فرمان ”لا يفرك“ کا مطلب ہے کہ بغض نہیں رکھتا۔

ایک محمد ار مسلمان خاوند اس وقت اپنی بیوی کی اچھائیوں کو سامنے رکھتا ہے جب بیوی کی کچھ خامیاں اسے نظر آتی ہیں، اور حکم کے مطابق صرف نظر سے کام لیتا ہے، بات زی بے کرتا ہے، برے الفاظ لیا ایسے انداز سے اس کا تذکرہ نہیں کرتا جس سے عورت کو غصہ آئے،

یادہ مزید نافرمانی پر اتر آئے۔ یہ اس بات کا مظہر ہے کہ وہ اپنی یوں کے لیے رحمت و شفقت کے جذبات رکھتا ہے اور اسے انجام بدے سے بچانا چاہتا ہے۔

البتہ جب وعظ و نصیحت اثر نہ کھائے تو دوسرے مرحلے میں قدم رکھتا ہے اور وہ ہے:

② قطع تعلقی

کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے: («اَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ»)

”انہیں ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو۔“

اس قطع تعلقی یا چھوڑنے کی حد میں اختلاف ہے۔

بعض کے ہاں گفتگو اور بات چیت ترک کرنا مراد ہے۔

بعض کے ہاں ہمسٹری وغیرہ چھوڑ دینا مراد ہے۔

بعض کے ہاں مراد سخت گفتگو کرنا ہے۔

یہ سب اقوال درست ہو سکتے ہیں ان میں سے ہر انداز کا اثر مختلف عورتوں پر مختلف ہوتا ہے۔ بعض عورتوں پر ہمسٹری ترک کر دینے کا اثر ہوتا ہے، بعض پر بات چیت ترک کر دینے کا اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک گفتگو، ہمسٹری اور صحبت وغیرہ سب کچھ ترک نہ کر دیا جائے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ الغرض جب خاوند دیکھے کہ ان میں سے کسی بھی طریقے کے مطابق قطع تعلقی سے مصلحت حاصل ہو رہی ہے، تو اصلاح کی نیت سے اس کے مطابق قطع تعلقی کر لے، انتقام لینے یا تکلیف دینے کی نیت نہ ہو۔

آیت میں قطع تعلقی کے لیے بستروں میں قطع تعلقی کی قید لگائی گئی ہے، اور اسی طرح معاویہ بن حیدہ کی سابقہ روایت میں بھی ہے، کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((لا تهجر الا في البيت)) ﴿۱﴾

”گھر کے اندر ہی اس سے قطع تعلقی کر۔“

یہی نبی اکرم ﷺ سے یہ بھی صحیح منقول ہے کہ آپ نے اپنی یوں کو ان کے

* اسناده صحيح، سنن ابی داود، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها، رقم:

گھروں کے اندر ہی چھوڑے رکھا اور خود ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، جیسا کہ اُس بن مالک رض سے مروی ہے:

((آلی رسول اللہ من نساء ه شهرًا و قعد فی مشربة لَهُ)) ﴿۱﴾

”رسول اللہ ﷺ نے اپنی ازوانج سے ایک ماہ کا ایلاع کیا اور ایک بالاخانہ میں تشریف فرمائے۔“

نبی اکرم ﷺ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرح کی قطع تعلقی جائز ہے، گھر کے اندر بھی اور باہر بھی، اور ان میں سے بہتر وہی ہے جس کا اثر عورت پر بہتر ہو۔

☆ یہاں پر ایک نکتہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور کے ذہن میں یہ آیا ہو، یا کسی نے اسے بیان کیا ہو۔ نکتہ یہ ہے کہ:

یہ نبی ﷺ کے عدل و انصاف کی انہاتا ہے کہ آپ نے تمام بیویوں سے تعلقات منقطع کیے، اور ان کے گھروں سے باہر بھی قطع تعلقی کی، تاکہ اس کا اثر ان پر زیادہ ہو، فائدہ بھی زیادہ ملے اور عدل و انصاف کا پہلو بھی مضبوط رہے۔ آپ ﷺ اپنی تمام بیویوں کے ہاں چکر لگایا کرتے تھے۔ ہر ایک کے پاس اس کی باری پر جاتے تھے۔

اگر آپ اس بیوی کو اس کے دن چھوڑتے اور اُس کے دن تو اس کا وہ اثر نہ ہوتا جو سب کو، ان اپنے دنوں میں بھی، غیر دنوں میں بھی اور گھروں کے باہر بھی چھوڑ دینے کا ہوا۔ واضح رہے کہ امہات المؤمنین کے بارے میں بر الگان قطعانہ آنے پائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ تو پاک صاف، ایماندار، فرمانبردار، توبہ شعار اور خرچ کرنے والی پاکباز خواتین ہیں۔ آپ نے تو فقط ان کی تربیت کے لیے اور ان پر رحمت و شفقت کرتے ہوئے انہیں چھوڑا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت بیان کی ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿۲﴾

* صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب، رقم:

- ۳۷۸ - ۹ / التوبۃ: ۱۲۸

”تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے کہ تمہاری مشقت اس پر بہت گراں گزرتی ہے، تمہاری بھلائی پر اپنائی حریص، اور مومنوں کے لیے بڑا نرم اور سہریان ہے۔“

اور جب قطع تعلقی بھی سود مدت ثابت نہ ہو تو تیرے مرحلہ کی باری آئے گی اور وہ ہے:

③ مار پیٹ

کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے:
﴿وَاصْرِيبُوهُنَّ﴾ ”یعنی، ان کی پٹائی کرو۔“

نبی اکرم ﷺ نے معاویہ بن حیدہ کی سابقہ حدیث میں اس مار پیٹ کی کیفیت واضح فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

(ولا تضرب الوجه ولا تقبح) ﴿

”چہرے پر مت مارنا، نہ ہی بر اجلا کہنا۔“

اور آپ نے فرمایا:

(وا ضربوهُن ضرِيًّا غَيْر مُبِرِّح) ﴿

”انہیں ایسے انداز سے مارو کہ خت چوٹ نہ لگے۔“

آدمی اپنی بیوی کو اس وقت پیٹئے گا جب وہ نافرمانی پر اتر آئے، اور سابقہ اصلاح کے تمام طریقے ناکام ہو جائیں، اور ایسے انداز سے پیٹئے گا کہ کوئی نشان نہ پڑے، چہرے پر مارنے سے بچے گا۔ اور اس مار پیٹ سے مقصود انتقام لینا یا غصہ زکانا نہیں، بلکہ کسر نفس اور اصلاح و تربیت ہوگا۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

(لا يجلد أحدكم أمرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم) ﴿

❶ استادہ صحیح، سنن ابی داود، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها، رقم: ۲۱۴۲۔

❷ استادہ صحیح، سنن الترمذی، کتاب الرضاع، باب ما جاء فی حق المرأة علی زوجها، رقم: ۱۱۶۳؛ سنن ابن ماجہ: ۱۸۵۱۔

❸ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب ما یکرہ من ضرب النساء، رقم: ۵۲۰۴۔

”تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ پیٹے جس طرح غلاموں کو پیٹا جاتا ہے، پھر وون کے اختتام پر اس سے صحبت کرنے بیٹھ جائے گا۔“

اصلاح کے ان ذرائع میں سے کوئی ذریعہ فائدہ پہنچا رہا ہو تو مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ بغیر کسی رانج شرعی مصلحت کے اس سے اگلا ذریعہ اختیار کرے۔

اسی طرح جب سخت چوٹ سے ماوراء مار کا اثر ہو جائے اور عورت غلطی سے پلٹ آئے، تو بتا سب ہو جائے تو فوراً مار پیٹ ترک کر دیتی چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ أَطَعْنَاهُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا﴾ (۴ / النساء: ۳۴)

”جب وہ تمہاری مطیع و فرمابندردار بن جائیں تو زیادتی کے بہانے نہ ڈھونڈو۔“

اور اگر مار پیٹ بھی فائدہ نہ دے، اور خاوند دیکھے کہ اس کی بیوی انتہائی نافرمان ہو چکی ہے، اتنی نافرمان کہ اصلاح مشکل ہے تو آخری چارہ جوئی کرے، یعنی:

④ دو حکم بنا کر اس سے فیصلہ کروائے

ایک حکم اس کے اپنے خاندان میں سے ہو اور دوسرا بیوی کے خاندان سے۔ یہ دونوں زیریک و دانا، سمجھ بوجھ والے، عقلمند، دیندار و امانت دار، علم اور تجربہ والے ہونے چاہیں جو میاں بیوی کے خیر خواہ اور مصلحت کے طالب ہوں اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿وَإِنْ خَفْتُمُ شِقَاقَ يَبْتَهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾

﴿إِنْ يُؤْتِدَا إِصْلَاحًا يُوقِّنِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَيْرًا﴾

”اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی آئندگی کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کروانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرادے گا، یقیناً اللہ پورے علم والا، خبر والا ہے۔“

خاوند اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرجھانا دینے کے لیے تیار کرے، خواہ ظاہری طور پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم اسے اس مصلحت کے خلاف ہی نظر آئے جو اسے

دونوں کے لیے دکھائی دے رہی ہے۔

اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کے بارے میں ثابت کر دے کہ میں بیوی اور باقی

ما تکنوں کے متعلق اصلاح اور عدل و انصاف ہی کا طالب ہوں۔

اللہ رب العزت ان تمام باتوں سے خبردار ہیں جو لوگ چھپاتے ہیں۔

مثال خاوند

پر اعتماد، میدانِ عمل میں کامیاب

ہر یوں کو اپنے خاوند کی دو خوبیاں ضرور مسحور کرتی ہیں:

☆ اپنے آپ پر پورا بھروسہ اور اعتماد

خود اعتمادی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ انسان مضبوط شخصیت کا مالک، قدم آگے بڑھانے والا، پیغمبہر کھانے والا، اپنے آپ کو منوانے والا اور اپنے خوابوں کو سچا کر کھانے والا ہے۔

یہ باقی ایک طرف یوں کے دل میں والہانہ محبت ڈالنے کا ذریعہ نہیں ہیں تو دوسرا طرف اس کی وجہ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہاں حفظ و امان میں اور مضبوط پناہ گاہ میں ہے۔ اس کا عقد ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہے جو علنہ دوانا ہے اور حال و مستقبل میں اپنی یوں اور اپنے بچوں کے لیے خیر و بھلائی سینٹا جانتا ہے۔

اور تیسرا طرف یہ بات اس کے لیے اس کی بھولیوں، سہیلوں، بہنوں اور خاندان والوں کے سامنے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے فخر کا سبب ہے اور اس سے بھی پہلے اپنی عین نظر وہ میں فخر کا ذریعہ نہیں ہے۔ پھر اسی چیز کی بدولت وہ اپنے آپ سے راضی رہتی ہے اور اسے احساس رہتا ہے کہ اس نے اپنی عزت و عصمت کے مالک کا انتخاب بہت اچھا کیا ہے۔

☆ میدانِ عمل میں کامیاب و کامرانی

یہ چیز اس کے میدان میں بہت آگے بڑھنے کی صلاحیت، اور اپنا کام بطریق احس پورا کرنے میں ممتاز ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ اس سے اس کا اپنے آپ پر اعتماد حال ہوتا ہے اور اس کی یوں اور اولاد اس پر فخر و ناز کرتی ہے۔

خاوند کے تعلقات اگر اپنی یوں کے ساتھ اچھے ہوں، اور وہ میدان میں کامیاب اور پر اعتماد ہو، تو یہی خوبیاں ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی یوں کو اپنی دیوانی بنا لیتا ہے، اس کے

دل کا مالک بن جاتا ہے، پھر اس کی بیوی کو دنیا جہاں میں اس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ کوئی قریبی، نہ رشتہ دار اور نہ کوئی اجنبی۔ اور وہ اس کی رضا جوئی کی متلاشی رہتی ہے۔ خاوند کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟

مثالی خاوند

اپنے وقت کی تقسیم و ترتیب میں ماہر

اچھا خاوند خوب جانتا ہے کہ اس کا وقت، اس کی سائیں اور اس کی زندگی ہے۔ اس لیے وہ وقت کو بے فائدہ امور میں برپا نہیں ہونے دیتا۔ اپنے وقت کی عمدہ گھریوں کو اپنی بیوی اور اولاد کے ہمراہ گزارتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں، اس زندگی میں اس کے پاس جو کچھ ہے ان میں سب سے قیمتی سب سے معزز یہی ہیں، پھر وہ ایسے انداز سے اپنے اوقات کو استعمال میں لاتا ہے کہ ہر چیز کو اس کا پورا وقت ملے، اور سب کچھ ایسے زبردست نظام کے مطابق ہو کہ اس کا سارا وقت قیمتی بن جائے۔ فرانس بھی پورے ہو جائیں اور بیوی اور اولاد کے حقوق بھی انہیں پورے پورے ملیں، اور ایسے انداز سے ملیں کہ وہ راضی ہو جائیں۔

ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یار دوستوں سے ملنے جلنے اور ان کے ساتھ سیر پائٹے میں مصروف رہے اور بیوی کے پاس بیٹھے ہی نہ سکے، نہ اس کی باتیں سن سکے نہ زندگی کی دوڑ میں اس کے ساتھ شریک ہو سکے۔

اور نہ وہ سارا وقت گھر میں بستر پر ہی سوئے ہوئے گزارتا ہے کہ گھر میں اس کی موجودگی اور عدم موجودگی برابر ہو۔

ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سارا وقت مہمان خانہ میں ہی گزار دے، دروازہ بند ہو، اور وہ تمام ذمہ داریاں جو اس نے سرانجام دینی تھیں وہ اس کی اس سستی کی وجہ سے خادم و ملازم کر رہے ہوں۔ گھر واپس پلٹنے تو اس ست اور کابل شاگرد کی طرح جو ذمیہ کام پیریڈ سے چند گھریاں پہلے لکھتا ہے۔ نہیں، بلکہ مثالی خاوند وقت کی قدر قیمت پہنچاتا ہے اور اپنے وقت کو اپنی ترجیحات کے مطابق، اور دوسروں کے حقوق سامنے رکھ کر ترتیب دیتا ہے۔

مثال خاوند

گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں مدد دیتا ہے

شادی ایک دوسرے کی ضمانت، کفالت، ایک دوسرے کے لیے محبت اور تعاون کا ایسا ادارہ ہے جو میاں بیوی کی مشترکہ ملکیت ہے۔

خاوند کے بیوی پر قوام (سرپرست) ہونے کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ وہ حکم چلانے والا ہوا اور مشورہ لینے کا بھی روا دار نہ ہو، روکنے والا ہو خود رکنے والا نہ ہو۔ نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ ایک مالک و آقا کی سی زندگی گزارے۔ غلام اور آقا کے تعلق میں جو تصور ہے یہاں نہیں ہے کہ بیوی تو اس کی خدمت کرتی رہے اور یہ اس کے حقوق کی ادائیگی سے آزاد ہو۔ یہ اس کے ساتھ ایک خادمہ یا لوٹدی کا سامعاملہ نہیں رکھ سکتا۔

شرعی لحاظ سے ایک لوٹدی کا جو مقام ہوتا ہے، بیوی کا مقام اور اس کی شان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اس کی بیوی، اس کی محبوبہ، اس کی دوست اور ساتھی ہے اگر اس کے ذمہ کچھ فرائض ہیں تو اس کے بہت سارے حقوق بھی ہیں۔

یاد رکھیے! اس رشتے اور تعلق میں، حقوق و فرائض سے ہٹ کر، ایک قدر زائد بھی ہے۔ حسن معاشرت اسی قدر زائد کی متقاضی ہے۔ ہمیں نبی اکرم ﷺ کی زندگی سے اس معاملے میں بہترین نمونہ ملتا ہے۔

خاوند کی خدمت بعض اہل علم کے ہاں واجب ہے اور بعض کے ہاں مندوب و مستحب۔ لیکن! خاوند کا بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آنے کا تقاضا ہے کہ وہ بیوی کے فرائض کی ادائیگی میں اس کے ساتھ تعاون کرے، خواہ فرائض میں گھر بیلو کام کا ج شامل ہو یا

نہ ہو۔

نبی اکرم ﷺ کی زندگی اس سلسلے میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ ایسی مثال کہ

گھر بلوکام کاج میں گھر والوں کی معاونت کے سلسلے میں جس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ خود آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ کی محبوب بیوی، ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فیضہ اس کی گواہ ہیں۔ اسود بن یزید سے مروی ہے، کہ میں نے حضرت عائشہؓ فیضہ سے دریافت کیا کہ نبی اکرم ﷺ گھر میں کیا کرتے تھے؟

حضرت عائشہؓ فیضہ نے جواب دیا:

((کان فی مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج)) * *

”آپ ﷺ گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتے، جو نبی اذان سنتے، نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انکاری و توضیح کا پیکر اور جسم رحمت تھے۔ اپنے پہلو کوازوں مطہرات کے لیے زم کیے رکھتے، خود ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے اور ان کے لیے خیر و بھلائی کا منع تھے۔

اس طرح نہیں جس طرح آج کل کے خاوند بیویوں کے معاملے میں انتہائی سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قدرت کے باوجود ان کے ساتھ تعاون کے قریب نہیں پہنچتے، حالانکہ بعض اوقات بیوی خاوند کے دست تعاون کی سخت محتاج ہوتی ہے، مثلاً وہ بیمار ہے، یا گھر کے ڈھیروں کام ہیں، پھر بچوں کو سنبھالنے کی مصروفیات ہیں اور اس سب سے نپنا اس اکیلی کے بس کاروگ نہیں ہے۔

الہذا شوہر نامدار! آپ اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں عدمہ مثال پیش کریں۔ اور یاد رکھ! اس طرح سے تو اس کے دل کا مالک بن جائے گا اور وہ تیرے لیے بہترین بیوی ثابت ہو گی۔ اور تیرے ساتھ اسی طرح پیش آئے گی جس طرح تو پسند کرے گا، کیونکہ تو نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس کی لغزشوں سے چشم پوشی کی ہے اور فرائض کی ادائیگی میں اس کا ہاتھ بٹایا ہے۔

* صحيح بخاري، كتاب النفقات، باب خدمة الرجل نبى اهله، رقم: ٥٣٦٣؛ سنن

الترمذى: ٢٤٨٩

گھر میں بیوی کا ساتھ دینے کا کوئی اور فائدہ نہ بھی ہوتا تو بھی، اس کی وجہ سے حاصل ہونے والی اس کی قربت، پیار اور محبت و مودت کا فائدہ علی کافی تھا۔

”فَكُنْ لِهَا عَبْدًا تَكُنْ لِكَ أُمّةً“

”تو اس کے لیے علام بن جاوہ تیرے لیے لوٹدی بن جائے گی۔“

مثال خاوند

ایک حساس انسان، بیوی کے ساتھ پیش آنے کے ڈھنگ

سے واقف

اچھا خاوند صنِ معاشرت کی بدولت اپنی بیوی پر اپنا جادو چلا دیتا ہے۔ اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی بیوی سے پیش آئے گا تو اس کا قلب و جگہ اس کی قید میں آجائے گا اور اس کے لیے اس کی محبت کے جذبات برائیغختہ ہوں گے۔

لہذا وہ موقع محل کے مطابق، بیوی کے جذبات و احساسات کو دیکھ کر اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جب وہ غصے میں ہو تو یہ زم ہو جاتا ہے، وہ لغوش کر جائے تو یہ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، پکارتا ہے تو پیار میں نام کا کچھ حصہ حذف کر جاتا ہے، اور بیوی کے حسن اخلاق اور اچھی طبیعت کی تعریف میں رطب اللسان رہتا ہے۔

اسے یہ احساس دلانے رکھتا ہے کہ تیرے ساتھ زندگی گز ارنے کے کیا ہی کہنے!

جو لمحات جو اوقات تیرے ساتھ گزر رہے ہیں یہ میری زندگی کے خوش گن اوقات

ہیں۔

تو موجود نہیں ہوتی تو کبھی تیری صورت میرے ذہن سے محو نہیں ہوتی، تو میرے خیالوں میں اسی طرح موجود ہوتی ہے جس طرح اب میرے سامنے ہے۔

تیری تصور میرے دل میں نقش ہے اور تیری محبت میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ

رہی ہے۔

اچھا خاوند اپنی بیوی کی روح اور اس کے وجدان سے مخاطب ہوتا ہے، وہ اس کے احساسات و جذبات کو گدگداتا ہے اور انہائی نرمی، لطفات، محبت، پیار، اور چاہت سے پیش آتا ہے۔ اپنی بیوی کے دل میں جگہ بنانے اور اس کی محبت سمیٹنے کے فن سے بخوبی واقف ہوتا ہے اور اس کے لیے کئی طریقے اختیار کرتا ہے۔ مثلاً

☆ انہائی پیار، چاہت، خبتو و مودت اور دل لگی سے اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہتا ہے۔

☆ جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو ایسے جیسے ایک محظوظ اپنی محظوظہ کے ساتھ بیٹھا ہو، پیار محبت کے بول بولتا ہے اور اسی گفتگو کرتا ہے جو اس کے شوق اور والہا نہ پن کی آئینہ دار ہو۔

☆ اس کی دلچسپیوں میں شریک ہوتا ہے، اس کے دل پسند مشاغل میں اپنی خاص دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔

☆ اس کی آنکھوں سے آنکھیں بکثرت ملاتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو چھوتا ہے، اپنی زبان سے اس کی تعریف دشناکرتا رہتا ہے۔

☆ بوقت غسل بیوی کے ساتھ غسل کرتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ اور حضرت عائشہؓؓ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ دونوں اکٹھے غسل کیا کرتے تھے اور پانی لینے میں چھینا جبھی کرتے۔

☆ اس کے احساسات و جذبات کا خیال رکھتا ہے، اپنی مسکراہٹ سے اسے گرویدہ بناتا ہے، خوبصورت باتوں سے محور کرتا ہے اور ناز و نخرہ اٹھاتا ہے۔

☆ بیوی کی خواہشات کا خیال رکھتا ہے، اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی خواہش کے پورا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو معدورت کرتا ہے، تاکہ وہ دل میں ناراضگی نہ رکھے اور خوش رہے۔

☆ نان و نفقہ، کھانا پینا، لباس کپڑا اور ہمستری وغیرہ کے جتنے حقوق ہیں سب پورے کرتا ہے۔

☆ صحبت و ہمستری کے وقت اچھے انداز سے پیش آتا ہے، اس کی ضرورت و حاجت کو پورا کرتا ہے اور جائز طریقے کے مطابق جس طرح وہ لطف حاصل کرنا چاہتی ہے اسی طرح اسے پورا لطف پہنچاتا ہے۔

☆ اس کے رشتہ داروں، بالخصوص والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے اور ان کی زیارت پر خوشی و سرور اور سعادت کا اظہار کرتا ہے، کبھی بھی ان سے اکتاہٹ کا اظہار نہیں

* صحیح بخاری، کتاب الغسل، باب هل یدخل الجنب يده فی الإناء.....، رقم: ۲۶۱، ص ۳۳۱۔

- کرتا۔ محبت و مودت کی آبیاری اور دل کی امن و سکون کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے۔
- ☆ سب و شتم اور کالی گلوچ سے اپنی زبان کو روک کر رکھتا ہے اور ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالتا جن سے بد مرگی پیدا ہو، یا یوں کی شرم و حیا کے لیے تا گوار ہوں، نہ علی اُنکی گندی گفتگو کرتا ہے جسے یوں ناپسند کرے۔
- ☆ اپنے ہاتھ پر کشروں رکھتا ہے، خخت پکڑیا مار پیٹ سے اجتناب کرتا ہے، یوں کے لیے انتہائی کرم اور صحیح معنوں میں حسن سلوک کا پیکر ہوتا ہے۔

مثال خاوند

عقل مند، سمجھدار، دانا اور دانشمندی میں برتر و فائق

اچھا خاوند اپنی دانشمندی و داناگی کے بل بوتے پر بھی اپنی بیوی کو محور کر لیتا ہے اور اپنی سمجھداری کی بدولت یوں باور کرواتا ہے گویا اس نے زندگی کے تمام پہلوؤں کا خوب تجربہ کر رکھا ہے۔ اور ان تجربات نے اسے وہ سبق دیے ہیں جن کی بدولت اب یہ اپنی بیوی کے دل کو اپنی مٹھی میں لینے پر قادر ہو گیا ہے۔

اور پھر یہ اپنے ہر تصرف میں حکمت و داناگی کا ثبوت دینے والا، اپنے ہر کام میں مشاق و ماہر ہوتا ہے۔ یہ کسی کم عقل انسان کی طرح اپنے رویے سے اپنے خاندان کو ضائع اور برباد نہیں کرتا کہ اپنی زبان سے نکلنے والے ایک لفظ سے، جس کی عقینتی کا اسے احساس ہی نہ ہو، اس قیمتی ناطے کو توڑ بیٹھے۔

خوب سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے۔ کسی قسم کی لعن طعن، گالی گلوچ یا سب وشم کے الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکلتے جس سے اس کی بیوی کو تکلیف ہو، جیسا کہ بعض شوہروں کا وطیرہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات بیوی کی خیر خواہی اور صحیح طور پر اس کی اصلاح کے طریقے کے خلاف ہے۔

ہاں! یہ طلاق کے الفاظ کو کھلیل اور مذاق نہیں بناتا، نہ سنجیدگی میں نہ مذاق میں۔ بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا بیوی سے نہیں مذاق میں یا اسے ڈرانے یا اپنی مرضی کے کام پر اکسانے کے لیے طلاق کے الفاظ اپنی زبان کی نوک پر لیے پھرتے ہیں۔

اگر ان خاوندوں کو علم ہو جائے کہ طلاق و تسریع (میکے روانہ کرنا) جیسے الفاظ اگر میان بیوی نہیں مذاق میں بھی استعمال کریں تو بعض اوقات جدائی کا حکم لا گو ہو جاتا ہے تو شاید اس بھی ان غلطی سے بازا آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس بنا پر بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا اور ہمستری کرنا حرام ہو چکا ہو اور یہ عین زنا کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ العیاذ بالله

مثالی خاوند

یقین چیز پر عمل کرتا ہے ظن و تخيیف کے پیچھے نہیں لگتا

”بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔“ ①

یہ مثالی خاوند ہے جو فقط گمان کی بدولت اپنی بیوی پر کوئی حکم نہیں لگاتا، اگر اسکے دل میں کوئی بات کھٹک رہی ہو یا بیوی کے بارے میں کوئی برا گمان پیدا ہو گیا ہو تو جب تک یقین نہ ہو جائے کوئی عملی اقدام نہیں کرتا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ②

” بلاشبہ حق اور رجح کے مقابلے میں ظن و گمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔“

اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَبَرُّو أَكْثِرُهُمْ إِذْنَنَّ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ بَعْضِ الظَّنِّ إِنَّمَا﴾ ③

”اے ایمان والو! بہت زیادہ گمان سے کام لینے سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔“

اچھے خاوند کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اگر کوئی بات ہو تو برا و راست بیوی سے بات کرتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو نرم گفتگو کے ساتھ ناراضکی کا اظہار کرتا ہے اور بغیر کسی ثبوت کے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔

اگر بیوی کی غلطی و کوتاہی کے قرائی نظر آرہے ہوں، اور غلطی ایسی نہ ہو جس پر حدگتی ہو یا بڑا گناہ نہ ہو تو معاف کر دیتا ہے اور چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔

❶ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه، رقم: ۵۱۴۳۔

❷ ۱۰ / یونس: ۳۶۔ ❸ ۴۹ / الحجرات: ۱۲۔

مثال خاوند اپنے رفیقہ حیات کی عزت کرتا ہے، اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا

اچھے خاوند کو اپنی بیوی سے محبت ہو تو اس کی عزت کرتا ہے، قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسی مقام دلتا ہے جیسے غلام اپنے آقا کو۔
اور اگر اسے ناپسند کرتا ہو تو اس کا کوئی حق مارتا نہیں ہے، خواہ وہ خود زیادتی کر رہی ہو یا اس کے گھر والے زیادتی کر رہے ہوں۔ اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جو آخر کل اختیار کیا جاتا ہے کہ بیوی کو تکلیف دینے کی خاطر، یا اسے اپنے سب حقوق یا بعض حقوق سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کے لیے متعلق حالت میں رکھا جاتا ہے، نہ تو وہ مطلقاً ہوتی ہے نہ بیوی، صرف نام کی بیوی ہوتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے دو کمزوروں شیخ اور عورت کے حقوق کی پامانی کو حرام قرار دیا ہے۔ *
اور اس فتح فعل کو اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں حرام قرار دیا ہے۔
﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا تَعْتَدُوا وَمَنْ يَقْعُلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾
”اور انہیں تکلیف دیتے ہوئے، زیادتی کرنے کی خاطر، روکے نہ رکھو جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا۔“ *

1- استادہ حسن، سنن ابن ماجہ: ۳۶۷۸؛ السنن الکبریٰ للنسانی: ۹۱۴۹، ۹۱۵۰، كما تقدم
2- البقرۃ: ۲۱۳۔

دل رہا ہوئی

صفات و اخلاق

دلربابیوں

نیک اور دیندار

اے خاتون! خانہ! اپنے حسنِ اخلاق، استقامت و ثابت قدی اور عمدہ و اعلیٰ عادات و صفات کے ذریعے سے اپنے سرتاج کا دل جیت لے۔

اطاعتِ الہی، تبیح و تہیل اور استغفار پر ہمیشگی و مداومت کے ساتھ اپنے شوہر کو محور کر، اور اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، فقراء و مساکین کے لیے صدقات و خیرات، برادری و خواتین خاندان کے ساتھ تحفہ تھانف کے لین دین کی اعلیٰ مثال بن جا۔

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

((تنکح المرأة لاربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر

بدأت الدين تربت يداك))

”چار چیزوں کو دیکھ کر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، مال و دولت، حسب و نسب، حسن و جمال اور دینداری۔ دین کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلو ہوں۔“

نبی اکرم ﷺ نے یہاں دیندار عورت سے نکاح کی ترغیب دی ہے، کیونکہ اسی سے دنیا و آخرت کی سعادت و خوش بختی، قابل رشک کامیابی اور توفیق ملتی ہے۔

فتنہ و فساد کی موجودگی میں عورت کا حسن و جمال کوئی فائدہ نہ دے گا، نہ بد اخلاقی کی صورت میں اس کا حسب و نسب کسی کام آئے گا، البتہ اس کا دین ہر جگہ فائدہ دے گا۔

اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

((وَأَنْكُحُوا الْأَيْمَنِي مِنْتَمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ عَيْنُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ))

❶ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الأکفاء فی الدین، رقم: ۵۰۹۰؛ صحیح مسلم:

❷ ۳۶۲۵ کمانقدم۔ ❸ ۲۴ / النور: ۳۲۔

”تم میں سے جو مرد و عورت غیر شادی شدہ ہوں ان کا نکاح کرو، اور اپنے نیک بخت غلام لوٹدیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے امیر بنادے گا۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دینداروں اور نیکوکاروں کے نکاح کرنے، اور ان سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، خواہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ دینداری میں میاں یہوی دونوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح سے روکا ہے، کیونکہ اس میں دین و دنیا اور آخرت سب برپا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ طَوْلَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ قِنْ قُشْرِكَةٌ وَلَوْلَا أَعْجَبَتُمْ﴾

”مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح مت کرو، مشرک عورت سے تو مومن لوٹدی بہتر ہے اگرچہ مشرک کہ تمہیں پسند ہی ہو۔“

☆ نیک، صالح اور اچھا خاوند کیونکر مل سکتا ہے؟

ہر دو شیزہ کا یہ حق ہے کہ وہ نیک اور صالح شریک حیات کا مطالبہ کرے اور اسے ایسا خاوند ملے جو ان تمام پاکیزہ و عمدہ صفات سے متصف ہو جنہیں یہ اس میں دیکھنا چاہتی ہو۔ حسنِ خلق، پختگی دین و ایمان، نرمی، دل کی خوبصورتی، زمزم زانی اور حسنِ معاشرت وغیرہ۔ لیکن ایسے شوہر کی تلاش میں اس بات کا لحاظ ضرور بالضرور رکھئے کہ اس کی یہ تلاش شرعی حدود کے اندر ہو۔ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی بازاری مال کی طرح اُنی وی چینلوں کے تعارضی پروگراموں میں پیش کرنا شروع کر دے، اس سے کمزور ایمان اور بیمار لوں والے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے اور فتنے میں پڑیں گے۔

ہر دو شیزہ کا یہ پورا پورا حق ہے کہ اگر اسے کوئی ایسا آدمی مل جس کی دینداری پر اسے اعتماد ہو تو اپنے ولی اور سرپرست سے کہئے کہ اس آدمی کو مجھ سے نکاح کی پیش کش کرے۔ اس

میں عورت کے لیے کوئی عیب یا برائی کی بات قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور سلف کا اس پر عمل ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلّّٰهِ إِنْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَسْتَنِدَكُمْ هَذَا﴾ ۱

”اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی پر پیش کرے اور نبی اس سے

نكاح کرنا چاہے۔“

اور حضرت ہبیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی:

﴿إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: (زوجنيها)﴾ ۲

”میں اپنی ذات آپ ﷺ کو ہبہ کرتی ہوں، اس کے بعد وہ کافی دریکھڑی

رہی، حتیٰ کہ ایک آدمی نے کہا کہ اس کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔“

اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے نفس کو آپ کی

خدمت میں پیش کیا اور کہا:

”اللّٰہ بھی حاجۃ؟“

”کیا آپ کو میری ضرورت ہے۔“

اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے کہا:

”ما اقل حیاء ها و اسوأ تاه“

”ہائے افسوس! یہ عورت کتنی بے حیاء ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا:

﴿(هٗ خٰيْرٌ مِنْكُمْ، رَغْبَتْ فِي النَّبِيِّ فَعَرَضَتْ عَلٰيْهِ نَفْسَهَا)﴾ ۳

۱۔ الاحزاب: ۵۰۔ ۲۔ صحيح بخاري، كتاب النكاح، باب السلطان ولی، رقم: ۵۱۳۵۔

۳۔ صحيح بخاري، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، رقم: ۵۱۲۰۔

”یہ تجھے سے بہتر ہے، اس نے نبی اکرم ﷺ میں رغبت ظاہر کی اور اپنے نفس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔“

اچھا خاوند ملنے کے اسباب:

☆ اس بات کو بخوبی جان لے کر اچھا خاوند اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے، اس لیے بکثرت نیک کام کیا کر، اور ہمیشہ اللہ کا خوف دل میں بٹھائے رکھ، کیونکہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کا تقویٰ اچھے رزق کو کھینچتا ہے۔

☆ نافرمانیوں اور گناہوں سے کنارہ کر لے، کیونکہ یہ اچھے رزق کے حصول میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔

☆ اطاعت الہی پر ہمیشگی اختیار کر، بکثرت صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اور بہت زیادہ استغفار کیا کر۔

☆ سنن روایت کی ادائیگی پر حریص بن جا، راتوں کو قیام کرو اور اللہ کے سامنے گڑگڑا کرو وہ اچھا خاوند عطا کرے۔

☆ اپنی نگاہ پست رکھ، شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اللہ کو دکھادے۔ اور وہ اپنے بندوں سے بخوبی واقف ہے۔ کہ تو اچھے خاوند کی طالب اس لیے ہے کہ نگاہ، شرمگاہ اور تمام اعضاء کو پاک اور عفیف رکھ سکے۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

((ثلاثة حق على الله عزوجل عونهم: المكاتب ي يريد الاداء

والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله))

”تین لوگوں کی مدد اللہ کے ذمے ہے: مکاتب غلام جو ذمیہ رقم ادا کرنا چاہتا ہے، وہ نکاح کا خواہش مند جو عفت و پاک دامنی پر قائم رہنا چاہتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔“

* استناده صحيح ، سنن الترمذی ، کتاب فضائل الجہاد ، باب ماجاء فی المجاہد والناكح، رقم: ۶۵۵؛ سنن ابن ماجہ: ۶۵۱۸؛ مستند احمد: ۴۳۷ / ۲

☆ اپنے سجدوں میں بالخصوص قیام اللیل اور نفلی نمازوں میں بکثرت دعا کیا کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے اچھا شوہر عطا کرے اور یہ دعا کیا کر:

((اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي زَوْجًا صَالِحًا أَغْصُّ بِهِ بَصْرِي وَأَحْفَظْ بِهِ فَرْجِي

وَأَسْتَعِنُ بِهِ فِي أَمْرِ دِينِي وَدِنْيَايِ)) ﴿۱﴾

”اے اللہ! مجھے نیک اور صالح خاوند سے نواز، جس کی بدولت میں اپنی نگاہ پست رکھ سکوں، اپنی شرمنگاہ کی حفاظت کر سکوں اور اپنے دین و دنیا کے معاملات میں اس کی مدد لے سکوں۔“

اچھا خاوند حاصل کرنے کا عملی تحریب

نیک اور صالح خاوند کے حصول کے سلسلے میں ایک بہن نے اپنا تحریب بیان کیا ہے وہ

کہتی ہے:

”گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران میری غیر حاضری کی وجہ میری شادی تھی۔ جس کا انعقاد میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، یہ سب بالکل اچانک ہو گیا۔ آج میں تمہارے درمیان ہوں، تمہیں اپنا تحریب بتا رہی ہوں اور تمہیں اپنے تحریب میں شریک کر رہی ہوں، کیونکہ تم بھی اپنی دعاویں اور مبارکبادوں کے ذریعے سے میری خوشی میں شریک رہی ہو۔

میں جو کچھ تمہیں بتلاویں گی اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہو گا، اللہ میری گفتگو پر گواہ

ہے۔

میری معزز بہنوں!

کچھ عرصہ قبل میری توجہ استغفار کی اہمیت و فضیلت اور اس کے فوائد کی طرف ہوتی اور میں نے اس باب میں کافی سارا مطالعہ کیا۔

یہاں کی کچھ بہنیں مجھے جانتی ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہے کہ میں سخت مشکل میں تھی، اور اس وقت میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میری خیر و بھلائی کے لیے دعا کریں۔

میں نے اچھا خاوند پانے کی خاطر استغفار کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد ابھی

* يَكْفُ عَرَبِي زَبَانٍ مِّنْ دُعَاءِهِ إِذَا كَاسَنُونَ هُوَ ثَابِتٌ نَّبِيْنِ -

چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک نوجوان نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، میں اسے جانتی تک نہ تھی، لیکن اس میں اچھے خاوند کی تمام صفات موجود تھیں۔

اگر اللہ کی قدرت و مشیت نہ ہوتی تو میرا اس تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہم دور دراز کے شہروں میں رہتے تھے۔ اللہ کی قسم! ابھی ایک ہی ماہ گزر اتنا کہ میں اس کی زوجیت میں آچکی تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔

میری یہ گفتگو ہر اس نوجوان لڑکی کے لیے ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، بلکہ ہر اس لڑکی کے لیے ہے جس کی کوئی حاجت ہو، خواہ کیسی بھی ہو، وہ اپنی چاہت کے حصول یا تاپنندیدہ چیز سے بچنے کے لیے استغفار سے کام لے، پھر جتنا بھی میسر ہو سکے صدقہ و خیرات کرے اور بکثرت دعا کرے۔

استغفار، صدقہ اور دعا

خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بدولت انتہائی محقرع صے میں میری شادی ہو گئی، میں میری کامیابی کا راز ہے۔

دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد نیک اولاد کی صورت میں مجھ پر احسان فرمائے اور میرے خاوند کی حفاظت فرمائے اور میری محبت اس کے دل میں راخ کر دے۔“

دلربابیوی

اپنے خاوند کی زبردست اطاعت گزار

اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے خاوند کے لیے بہترین ضرب المثل بن جا، اسے اتنا خوش رکھ کہ تیراد یوانہ بن جائے۔ اس کی طلب پر لیک کہہ کر اس کی محبت کی چوٹی تک چھینچنے کی کوشش کر اور اس کی توقع سے بڑھ کر اس کی پسندیدہ چیز اس کے طلب کرنے سے پہلے مہیا کر دے۔

”کونی لہ اُمّۃ، یکن لک عبداً“

”تو اس کی لوٹڑی بن جا، وہ تیراغلام بن جائے گا۔“

اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿فَالصَّلِحَاتُ قُنْتَتْ حَفَظَتْ لِغَيْبٍ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ﴾ ①

”نیک اور اطاعت گزار عورتیں، غیب میں بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والیاں جن کی حفاظت اللہ نے ان کے پر دکی ہے۔“

قنوت کا معنی ہے اللہ رب العزت اور خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری، کیونکہ خاوند کی فرمانبرداری اللہ کی اطاعت ہی ہے۔

سفیان ثوری رض فرماتے ہیں:

”قانتات: اللہ تعالیٰ اور اپنے خاوندوں کی اطاعت گزار عورتیں۔“ ②

خاوند کی اطاعت اللہ رب العزت کی قربت کے حصول کا بہت بڑا گناہ اور سخت عذاب کا سبب ہے۔ عظیم کام ہے اور خاوند کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ اور سخت عذاب کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی پر خاوند کے حق کو بہت عظیم قرار دیا ہے اور خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کی اہمیت اور اس کے وجوب و نزوم کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

((لو صلح لبشر أن يسجد لله لامر المرأة ان تسجد لزوجها))

۱۔ النساء: ۳۴۔ ۲۔ استنده ضعیف، تفسیر طبری، ۵۹/۵ و نسخہ اخري، ۶/۶۹۲۔
امشی بن ابراہیم مجہول راوی ہے۔

من عظم حقہ علیہا والذی نفسی بیدہ لو کان من قدمہ إلى
مفرق راسہ قرحة تبجس بالقیح والصدید ثم استقبلته فلحسته
ما ادت حقہ))

”اگر انسان کا کسی انسان کو وجودہ کرنا جائز ہوتا تو میں یوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے
خاوند کو وجودہ کرے، کیونکہ خاوند کا یوں پرحت ہی بہت بڑا ہے۔ اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر پاؤں سے لیکر سر کی مانگ تک خاوند کا زخم
ہو جس سے خون اور پیپ بہرہ رہی ہو اور یوں آگے بڑھ کر اور اپنی زبان سے
چاٹ کر اسے صاف کر دے تو بھی خاوند کے حلق سے بریِ الذم نہیں ہو سکتی۔“

اور حصین بن محسن اپنی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت کی خاطر رسول
اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جب فارغ ہو گئیں تو آپ نے ان سے پوچھا:
”اذاتِ زوج انتِ؟“ قالت: نعم، قال: فكيف انت له، قالت ما
الوہ الا ما عجزت عنه قال: انظری این انت منه فانما هو
جنتك ونارك۔“^۱

”کیا تمہارا خاوند ہے؟“

انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! آپ نے پوچھا: ”تمہارا اس سے سلوک کیا
ہے؟“ انہوں نے جواب دیا: ”میں انہیں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتی، ہاں کسی
معاملے میں میں بے بس ہو جاؤں تو اگلگ بات ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”خیال رکھنا کہ اس کی نگاہ میں تو کسی ہے۔ وہی تمہاری جنت اور وہی
تمہارے لیے آگ ہے۔“

^۱ استناده ضعیف، مسند احمد، ۱۵۸/۳، ۱۵۹، رقم: ۱۲۶۱۴، خلف بن خلیفہ خلط راوی
تینیہ: ”اگر میں کسی کو اللہ کے سوا بھدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو وجودہ کیا کرے۔“ یہ
ثابت ہے۔ دیکھئے سنن ابن ماجہ (۱۸۵۳) ابن حبان (۱۲۹۰) و سندہ حسن۔

^۲ حسن، السنن الکبری للنسائی: ۸۹۶۷؛ السنن الکبری للبیهقی، ۷؛ ۲۹۱، مسند احمد،
۳۴۱، رقم: ۱۹۰۰۳ و صححہ الحاکم، ۲/۱۸۹۔

اسی طرح آپ ﷺ سے سوال ہوا کہ بہترین عورت کون ہی ہے؟
آپ نے جواب دیا:

((الَّتِي تُطْبِعُ إِذَا أَمْرٌ، وَتُسَرِّ إِذَا نَظَرَ وَتُحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ))
”وہ عورت جسے خاوند حکم دے تو فوراً اطاعت کرے، اس کی طرف دیکھئے تو
خوش کر دے اور اس کے لیے اپنے آپ کی، اور اس کے مال کی حفاظت
کرے۔“

الغرض عورت پر فرض ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ ہر حال اور جائز معاملے میں
خاوند کی اطاعت کرے۔ البتہ اگر خاوند سے حرام کام کا کہہ مثلاً حالت حیض میں یا فرضی روزہ
کے دوران اس سے صحبت کرنا چاہے یا خیانت، چوری، زنا کاری وغیرہ کا مرتكب ہو۔ اللہ کی
پناہ۔ یا جنبیوں کے سامنے اس کا پردہ کھولے، یا نامحمرموں کے ساتھ خلوت نشینی کا کہہ وغیرہ.....
تو اس صورت میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس حرام کام میں خاوند کی اطاعت
کرے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے:

((لَا طَاعَةٌ فِي مُعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ))

”اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت و فرمانبرداری صرف
نیکی کے کاموں میں ہے۔“

اور یہ بھی یاد رکھے کہ خاوند کی طرف سے اسے کتنی ہی تکلیف پہنچ، وہ صبر سے کام
لے۔ اللہ کے دین میں اس کی خیر خواہی کی طالب رہے، اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے
اور نہ ہی حرام کام کے علاوہ اس کی نافرمانی کرے۔

ہاں اگر دیکھئے کہ اس کے ساتھ رہے گی تو اپنادین محفوظ نہیں رکھ سکے گی تو اس صورت
میں اس کے لیے جائز ہے کہ طلاق کا مطالبہ کر دے۔

❶ استدھ حسن، سنن النسانی، کتاب النکاح، باب ای النساء خیر، رقم: ۳۲۳۳ والکبری: ۸۹۱۲؛ السنن الکبری للبیهقی، ۷/۸۲؛ المستدرک للحاکم، ۲/۱۶۱، ۱۶۲۔

❷ صحيح بخاری، کتاب أخبار الأحاداد، باب ماجاء فی إجازة خبر الواحد الصدق، رقم: ۷۲۵۷؛ صحيح مسلم: ۱۸۴۰ (۴۷۶۵)؛ سنن ابی داود: ۲۶۲۵۔

دل ربابوی

خاوند کے مال اور اس کی عزت کی محافظت

خاوند کے مال میں حسن تدبیر و حسن تنظیم سے اس کے دل میں اپنی پسندیدگی میں اضافہ کر لے۔

اس کا مال فضول جگہوں پر خرچ مت کر، اس کی ہمت سے بڑھ کر اس سے طلب نہ کر اور کوشش کر تھوڑا مال زیادہ محسوس ہو، ایسا حسن تدبیر اور میانہ روی سے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اپنا مال تیرے لیے حلال کردے تو خرچ کرتے ہوئے اعتدال و میانہ روی کی حد سے مت نکلا، خواہ یہ خرچ اس پر یا اس کی اولاد پر ہی ہو۔

جب وہ غیر حاضر ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کر، اپنی آنکھوں کو اس کے علاوہ ہر ایک سے موند لے اور وسوسہ ڈالنے والے اپنے شیطانی سوچوں کی لگام ڈھیلی مت چھوڑ، بلکہ فوراً اس سے پناہ مانگ اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کی پناہ میں آ کر شیطان سے اپنا بچاؤ کر۔

جب وہ سفر میں ہو تو بغیر کسی انہائی ضرورت (ایمِ جنسی) کے اس کے گھر سے قدم باہر مت نکالنا، نہ مردوں کے ساتھ زیادہ گفتگو کرنا اور نہ ان سے گفتگو کے دوران میں نرم الجہا اپانا، کیونکہ اس سے کمزور ایمان اور بیماریوں والے لوگ غلط امید و ابستہ کر لیں گے، بلکہ اپنے انداز میں رعب دا ب، وقار اور سکینیت اختیار کرو اور خصالِ فضیلت کے زیور سے آراستہ رہ۔

اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿فَالصَّلَاحُتُ قُنْتَتُ حَفِظُ اللَّغَيْبِ بِهَا حَفَظَ اللَّهُ ﴾

”نیک اور فرمانبردار عورتیں، غیب میں بھی اللہ کی پروردگرد چیزوں کی حفاظت کرنے والیاں۔“

قادة بن دعامة الدوسی اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے خاوندوں کے جو حقوق ان کے پردازیے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والیاں، خاوندوں کی غیر موجودگی میں بھی حافظت۔“ ﴿۱﴾

اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”جو چیزیں خاوندوں کی نظرلوں سے اوجھل ہوں ان کے معاملے میں بھی خاوندوں کی حافظت۔“ ﴿۲﴾

میں کہتا ہوں:

اس سے مراد یہ ہے کہ خواتین اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کی پاسداری کرتی ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کے ذمے لگائے ہیں اور ان میں خاوندوں کا حق بھی شامل ہے اس میں مال اور عزت وغیرہ سب شامل ہیں۔

الغرض نیک عورت خاوند کی موجودگی و عدم موجودگی میں اپنے آپ کی، خاوند کے مال کی، اس کی عزت کی اور اس کے ہر معاملے کی حافظت ہوتی ہے۔

جیسا کہ نبی ﷺ سے جب پوچھا گیا کہ بہترین عورت کونی ہے تو آپ نے فرمایا:

((الَّتِي تُطْعِي إِذَا أُمْرِتَ وَتُسْرِرُ إِذَا نُظِرَ وَتُحْفَظُ فِي نَفْسِهَا وَمَا لَهُ)) ﴿۳﴾

”وَعُورَةٌ يَحْسِنُهُ خاوند حکم دے تو فوراً تسلیم کرے، اس کی طرف دیکھے تو خوش کروے اور اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔“

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

((أَلَا أَخْبَرَكُمْ بِالثَّلَاثِ الْفَوَاقِ؟ قَالُوا: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: إِمَامُ جَاهَةِ إِنْ

أَحْسَنَ لَمْ يَشْكُرْ وَإِنْ أَسَأَتْ لَمْ يَغْفِرْ، وَجَارُ سُوءٍ إِنْ رَأَى حَسَنَةً

* استناده ضعیف ، تفسیر طبری ، ۵/۶۰ و نسخه اخري ، ۶/۶۹۲؛ سید بن ابی عرب بمدلیس ہیں اور سالع کی صراحت نہیں ہے۔ * استناده ضعیف ، تفسیر طبری ، ۵/۶۰ و نسخه اخري ، ۶/۶۹۲ اشی بن ابراہیم مجہول راوی ہے۔ * استناده حسن ، سنن النسانی ، کتاب النکاح ، باب ای النساء خیر ، رقم: ۲۲۳۳ والکبری: ۸۹۱۲؛ السنن الکبری للسیھی ، ۷/۸۲؛ المستدرک للحاکم ، ۲/۱۶۱، ۱۶۲۔

غطھاً وإن رأى سيدة أفسادها، وأمرأة السوء إن شهدتها غاضبتك
وإن غبت عنها خانتك))

”کیا میں تمہیں تین بڑی مصیبتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے پوچھا کونی تین مصیبتوں؟ آپ نے فرمایا: ظالم حکمران کہ اگر آپ اس سے حسن سلوک کریں تو قدر نہ کرے اور اگر غلطی ہو جائے تو درگزرنہ کرے، بر اپڑوںی جو اچھائی اور نیکی دیکھئے تو اس پر پردہ ڈال دے اور برائی دیکھئے تو اس کا پر چار کرے، بری بیوی کہ اگر تو اس کے پاس موجود ہو تو تجھے غصہ دلانے اور اگر پاس نہ ہو تو خیانت کا ارتکاب کرے۔“

حافظت میں عزت اور مال وغیرہ سب شامل ہیں۔

دلربابیوی

خاوند کامال اس کی اجازت سے خرچ کرتی ہے

☆ عدم موجودگی میں حفاظت اور مال کی حفاظت میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرتی، اور جب خرچ کرتی ہے تو انہائی حکمت و دانائی اور سوچ و بچار کے ساتھ خرچ کرتی ہے اور بغیر کسی اسراف و تبذیر یا غلو کے شرعی مصارف میں خرچ کرتی ہے، اگرچہ خاوند غنی، مالدار اور وسعت والا ہو۔ جیسا کہ ابو امامہ بن القیطی کی حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((لا تنفق امراة شيئاً من بيت زوجها الا باذن زوجها)) ﴿١﴾

”کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔“

اس عموم میں خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے نیکی کے لیے خرچ کرنا بھی شامل ہے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سابقہ حدیث عام ہے۔

اور یہ جو آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

((وما انفاق من كسبه من غير امرهٗ فان نصف اجره له)) ﴿٢﴾

”عورت اپنے خاوند کی کمائی میں سے جو اس کے حکم کے بغیر خرچ کرے گی، اس کا نصف ثواب خاوند کو ملے گا۔“

یہ تب ہے جب عورت ضمناً جانتی ہو کہ خاوند اس کی پرواہ نہیں کرے گا، یا اگر اس کامال

﴿١﴾ استادہ حسن، سنن ابی داؤد، کتاب الاجارة، باب فی تضمين العارية، رقم: ۳۵۶۵؛ سنن الترمذی: ۶۷۰ واللفظ له؛ سنن ابن ماجہ: ۲۲۹۵؛ ابن الجارود: ۱۰۲۳۔

﴿٢﴾ صحيح مسلم، کتاب الزکاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاہ، رقم: ۱۰۲۶ (۲۳۷۰) واللفظ له، صحيح بخاری: ۲۰۶؛ سنن ابی داؤد: ۱۶۸۷، ۲۴۵۸۔

نیکی کے کام میں خرچ کیا جائے تو وہ مخالفت نہیں کرے گا، یا جب عورت کا کوئی نفقہ وغیرہ خاوند کے ذمے واجب الادا ہو اور وہ اس میں سے خرچ کرے۔ یہ دونوں حدیثوں میں تطیق کی بہترین صورت ہے۔

اور یہ انتہائی اطاعت و فرمانبرداری کی بات اور خاوند کی سرپرستی کے زبردست لحاظ کا ثبوت ہے کہ عورت اپنا مال، جو اس کی اپنی ملکیت ہے، اسے خرچ کرنا چاہے تو خاوند کی اجازت سے خرچ کرے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)) ۱

”جب عورت کا خاوند اس کی عصمت کا مالک بن جائے تو اس کے لیے اپنے مال میں بھی تصرف درست نہیں ہے۔“

ہمارے شیخ عبداللہ بن یوسف الجدیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ادب پر محکول ہے۔ لزوم و وجوہ اس سے مراد نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عید کے خطبہ میں عورتوں کو صدقہ کا حکم دیا تھا۔ ۲

امام خطابی نے بھی اکثر اہل علم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حسن معاشرت اور خاوند کے دل کو خوش رکھنے کے لیے ہے۔

البتہ امام مالک رضی اللہ عنہ کا موقف اس کے برعکس ہے، وہ فرماتے ہیں:

”عورت نے جو خرچ کیا ہو، اسے واپس لوٹایا جائے گا حتیٰ کہ خاوند اجازت دے

دے۔“ ۳

میں کہتا ہوں:

یہ حدیث و جوہ لزوم کا معنی رکھتی ہو یا ادب و حسن معاشرت کا، بعض لوگ اسے غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس حدیث کو دلیل بنانے کر بیویوں کے مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے

۱: استادہ حسن، سنن ابی داود، کتاب الاجارہ باب فی عطیۃ المرأة بغير إذن زوجها، رقم: ۴۷، سنن النسائی: ۳۷۸۷؛ المستدرک للحاکم، ۲/۴۷۔ ۲: صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان نقصان الایمان رقم: ۷۹ (۲۴۱)؛ صحیح بخاری: سنن ابی داود: ۴۹۷۶؛ سنن ابن ماجہ: ۴۰۰۳۔ ۳: بذل المجهود شرح ابو داود، ۱۵/۲۲۸۔

ہیں جو قطعاً جائز نہیں ہے۔ عورت کا مال خاص اس کی ملکیت ہے۔ خاوند کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہوی کی اطاعت کے وجوب سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور یہوی کا مال اپنی اجازت کے بغیر خرچ کرنے کے وجوب کو بیان کرتے ہوئے اس کی زندگی کو اجریں بنادے، تاکہ اس کے مال پر قبضہ جمالے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرُجُ حَقَ الْمُسْعِفِينَ الْيَتَيمَ وَالْمَرْأَةَ)) ۱

”میں دو کمزوروں شیم اور عورت کے حق کو پامال کرنا حرام قرار دیتا ہوں۔“

۱ استاد حسن، سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب حق اليتيم، رقم: ۳۶۷۸؛ السنن الكبرى للنسائي: ۹۱۴۹، ۹۱۵۰۔

دلرباپوی

خاوند کے گھر کی اس طرح پاسداری کرنے والی کہ گھر میں اس کی کوئی ناپسندیدہ شخصیت قدم نہ رکھنے پائے اپنے سرتاج کی خوب خوب اطاعت فرمانبرداری کر، اس کی مرضی سے ہٹ کر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مت دینا۔ جن لوگوں سے وہ ناراض ہے یا جنہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا ان کے قدموں کی مٹی گھر میں نہ آنے پائے اور جن لوگوں سے ملاقات اس پر گران ہے یا جن کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتا انہیں گھر میں بلا کر اسے پریشان نہ کرنا، خواہ یہ لوگ تیرے رشتہ دار اور عزیز واقارب ہی کیوں نہ ہوں! خاوند کا حق بہت بڑا ہے، جو حق تجھ پر تیرے والدین کا ہے، خاوند کا حق اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((ما ينبغي لامرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من

حقه))

”کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، اگر کسی کا کسی کو وجودہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر مرد کا حق ہی بہت بڑا رکھا ہے۔“
ایک روایت میں ہے:

((والذى نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجس بالقيق والصديق ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه))

1 استادہ حسن، سنن الترمذی، کتاب الرضاع، باب ماجاء فی حق الزوج علی المرأة، رقم: ۱۱۵۹؛ سنن ابن ماجہ: ۱۸۵۳، السنن الکبری للبیهقی، ۲۹۱/۷؛ ابن حبان: ۱۶۶؛ اللفظ له۔ 2 استادہ ضعیف، مستد احمد، ۱۵۸/۳، ۱۵۹، رقم: ۱۲۶۱۴، غلف بن خلیف خلط راوی ہے۔

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر خاوند کے پاؤں سے لے کر اس کے سر کی ماگن تک زخم ہو، جس سے خون اور پیپ بہہ رہی ہوا ریوی آکر اسے چاٹ کر صاف کر دے تو بھی خاوند کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔“
یوی پر خاوند کے حقوق میں سے ایک بڑا حق، جس کی بہت تاکید ہے، یہ ہے کہ اس کی رضامندی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ سنت کی بہت سی نصوص سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔

جیسا کہ جابر بن عبد اللہ رض سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَوْطَنُنَّ فَرِشَكَمْ أَحَدًا تَكْرُهُونَهُ﴾

”تمہارا تمہاری بیویوں پر یقین ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے آدمی کی وجہ سے سلوٹیں نہ پڑنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔“

یہ سنتی قطعاً درست نہیں ہے جو کہ آج کل بہت سے گھروں میں برقراری ہے کہ عورت، اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں، اجنبی آدمی کو خوش آمدید کہتی ہے اور گھر میں بلا لیتی ہے، حالانکہ اس میں حرام خلوت کی قباحت بھی ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرِهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ ثالِثَهُمَا﴾

”تم میں سے کوئی کسی (نامحرم) عورت کے ساتھ قطعاً خلوت اختیار نہ کرے، اس صورت میں ان میں تیراشیطان ہوتا ہے۔“

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿إِيَاكُمْ وَالدُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ﴾

- ❶ صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رقم: ۱۲۱۸ (۲۹۰۵)، سنن ابن داود: ۱۹۰۵؛ سنن ابن ماجہ: ۳۰۷۴۔ ❷ صحیح، سنن الترمذی، کتاب الرضاع، باب ماجاء فی کراہیة الدخول علی المغیبات، رقم: ۱۱۷۱؛ ابن حبان: ۴۵۷۶ واللفظ له، المستدرک للحاکم، ۱۱۴/۱، ۱۱۵۔ ❸ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب لا يخلون رجل بامرأة.....، رقم: ۵۲۳۲؛ صحیح مسلم: ۲۱۷۲ (۵۶۷۴)، سنن الترمذی: ۱۱۷۱۔

”عورتوں پر داخل ہونے سے اجتناب کرو۔“

اس پر ایک انصاری صحابی نے دریافت کیا: ”أَفْرَأَيْتُ الْحَمْو؟“

”دیور کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: ((الْحَمْوُ الْمَوْتُ))

”دیور تو موت ہے۔“

پہلی حدیث عام ہے کہ کسی ابھنی مرد کے ساتھ خلوت حرام ہے اور دوسرا حدیث میں خاص مرد کے رشتہداروں کی، اس کی بیوی کے ساتھ خلوت کوختی سے منع کیا ہے، خواہ مرد کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ان کے اور ان کی بھائی کے درمیان جو حرمت ہے وہ وقتی ہے، تائبہ نہیں ہے، چونکہ اکثر لوگوں کے ہاں لاپرواٹی اور سستی کی وجہ سے اس قسم کے رشتہداروں کے بیوی کے ہاں آنے جانے اور اس کے ساتھ خلوت اختیار کرنے کو برائیں سمجھا جاتا۔

اس بنا پر نبی اکرم ﷺ نے اس سے انتہائی بختنی کے ساتھ روکا ہے اور دیور وغیرہ کو موت قرار دیا، کیونکہ اس کے متاثر انتہائی تباہ کن سامنے آسکتے ہیں۔

یاد رہے کہ ”الْحَمْو“ یعنی دیور سے مراد یہاں پر خاوند کے آباء و اجداد اور اولاد کے علاوہ تمام رشتہدار ہیں۔

اسی طرح خاوند کی موجودگی میں بھی اس کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو گھر آنے دے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((لَا تاذن فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شاهد إِلَّا بِاذْنِهِ))

”خاوند موجود ہو تو بھی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔“

اس میں خاوند کے رشتہدار بھی شامل ہیں اور عورت کے بھی، حتیٰ کہ عورت کا باپ، بھائی اور قریبی رشتہدار بھی، بلکہ اس میں رشتہدار عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ حدیث میں ممانعت

❶ صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب ما أتفق العبد من مال مولاہ، رقم: ۱۰۲۶ (۲۳۷۰) واللطف له؛ سنن ابی داود: ۱۶۸۷، ۲۴۵۸.

کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ عام ہیں، یعنی ”احداً تکر هونہ“ کوئی بھی جسم ناپسند کرتے ہو۔ البتہ اگر عورت یہ صحیح ہو کہ خاوندان رشتہ داروں کو اور اس قسم کے لوگوں کو آنے کی اجازت دے دے گا تو انہیں گھر کو آنے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جبکہ آج کل بہت سی عورتیں اپنے خاوندوں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس لیے ان کی اجازت کی چند اس ضرورت محسوس نہیں کرتیں، نہ اس کی پرواہی کرتی ہیں، اور شریعت کے اس طریقے کو قبول کرنے اور مانے پر تیار نہیں جو خاوند کی اس سرپرستی کے حق کا ضامن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر فرض کر دیا ہے:

﴿الْيَجَانُ قَوْمٌ مَّوْنَعٌ عَلَى النِّسَاءِ يُبَأِ فَضْلَ اللَّهِ بِعِصْمِهِمْ عَلَى بَعْضِهِمْ وَقَبْلَهُمْ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

”مرد عورتوں پر حاکم ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور پھر انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔“

اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، لہتی بڑی آزمائش ہے اس خاتون پر جو اپنے خاوند کے معا ملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتی اور خاوند کو وہ حقوق نہیں دیتی جو اللہ تعالیٰ نے اس پر لازم قرار دیے ہیں۔

دلربابیوں

خاوند کی موجودگی کا لحاظ و خیال رکھنے والی

اچھی بیوی خاوند کی موجودگی کا لحاظ رکھتی ہے۔ جب فارغ ہوتی ہے تو لطف اندوزی اور حصولِ لذت کے جو حقوق اللہ رب العزت نے اس پر رکھے ہیں، ان کا خیال رکھتی ہے اور فرض سے بڑھ کر ذاتی دلچسپی سے لطف اندوزی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔

عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ خاوند موجود ہو اور وہ نقلی روزے رکھنے بیٹھ جائے، الا یہ کہ خاوند خودا سے اجازت دے یا اس کی ضرورت محسوس نہ کر رہا ہو، جیسا کہ حدیث نبوی ہے:

((لا تضم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو
شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف

أجره له))

”عورت کا گھر والا موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، نہ اس کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے دے، اور عورت اپنے خاوند کی کمائی سے اس کے حکم کے بغیر جو اللہ کی راہ میں دے گی، اس کا آدھا ثواب خاوند کو ملے گا۔“

اگر عورت وقتاً فوقتاً نقلی نماز پڑھتی رہے، ذکر و اذکار کرے، یا قرآن کی تلاوت کرتی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ خاوند کا اس کے پاس بیٹھنے اور گپ شپ یا صحبت کے ذریعے سے لطف اندوزی کا حق ضائع نہ ہو۔

جبکہ فرضی نماز روزہ کو چھوڑنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، کیونکہ خالق کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

* صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً، رقم: ۵۱۹۲۔
صحیح مسلم: ۱۰۲۶ (۲۳۷۰)۔

دلربابیویں

پیکرِ محبت و مودت، مجسم رحمت والفت

ایسی رفیقتہ حیات بن کے دکھا جس کے دل میں خاوند کا پیار اور اس کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو، جو لمحہ بھر کے لیے بھی خاوند سے بے پرواہ ہو، اس کی رضا میں راضی رہنے والی، کارِ حیات میں اس کی مدد و معاون، اطاعتِ الہی میں مددگار اور رحمت والفت کا پیکر جو اسے راضی رکھنے کے لیے کوئی دلیقۃ فروغ زاشت نہ ہونے دے، اور اس کے دل تک رسائی کا کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ کھونے نہ دے۔

میاں، بیوی کی جنت ہے، اگر وہ اس حالت میں وارِ قافی سے کوچ کرے کہ بیوی پر خوش ہو۔ اور خاوند ہی اس کی جہنم ہے، اگر وہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ بیوی پر ناراض ہو۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((تزووجو الودود الولود فانی مکاثر بكم الأمم يوم القيمة)) ﴿١﴾

”ان عورتوں سے شادی کرو جو انتہائی محبت والفت سے پیش آنے والیاں اور بکثرت بچے جننے والیاں ہوں۔ بلاشبہ مجھے روز قیامت دیگر امتوں پر تمہاری کثرتِ تعداد پر فخر ہو گا۔“

عورت اگر اپنے خاوند کے حق میں اچھی ثابت ہو تو یہ خاوند کی انتہائی خوش بختی اور سعادت کی علامت ہے۔ اور اگر وہ بد خلق ہو تو خاوند کی ساری زندگی مکدر و بے کیف ہو جاتی ہے، اور ایسی عورت دنیا میں خاوند کی بد بختی کی علامت ہے۔

جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے خبر دیتے ہوئے فرمایا:

((اربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني وأربع من الشقاوة: الجار السوء

﴿١﴾ حسن، سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب النہی عن تزویج من لم يلد من النساء، رقم: ۲۰۰۰ (الف) سنن النسائی: ۳۲۲۹۔

﴿ والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب الشوئ ﴾

”چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، اچھا پڑوی اور آرام دہ سواری، اور چار چیزیں بد بختی کی علامت ہیں: برا پڑوی، بربی بیوی، تنگ گھر اور بربی سواری۔“

اسی طرح اچھی اور نیک بیوی دنیا کی بہترین متعہ ہے، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

﴿ (الدنيا متعہ وخير متعہ الدنيا المرأة الصالحة) ﴾

”دنیا متعہ و فائدے کی چیز ہے اور دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک بیوی ہے۔“

اچھی اور نیک بیوی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اولاد پر انہائی مشق اور مہربان ہوتی ہے، ان کے تمام کاموں کا خیال رکھنے والی، تمام معاملات کی دیکھ بھال کرنے والی اور انہیں ان کے فائدہ کی باتیں بتانے والی ہوتی ہے۔ اسی صفت کی بنا پر نبی اکرم ﷺ نے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿ (خير نساء ركبن الإبل صالحون نساء قريش أحنانه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده) ﴾

”اونٹوں کی سوار بہترین عورتیں قریش کی نیک عورتیں ہیں، جو اولاد پر بچپن میں انہائی مہربان اور نرم ہوتی ہیں اور خاوند کی چیزوں کی دیکھ بھال کرنے والی ہوتی ہیں۔“

آپ نے بچوں کے بچپن میں بیوی کے ان پر مہربان ہونے کو بھی بھلائی اور نیکی کی علامت قرار دیا ہے، اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے کو بھی، اس آخری وصف پر گفتگو ساری صفحات میں گزر چکی ہے۔

﴿ استاده حسن ، ابن حبان: ٤٠٣٢؛ تاريخ بغداد للخطيب ، ٩٩/١٢ من طريق محمود بن آدم ، حلية الاولىاء ، ٣٨٨/٨ من طريق وائل بن داود ﴾ صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب خير متعہ الدنيا المرأة الصالحة ، رقم: ١٤٦٧ (٣٦٤٣)؛ سنن ابن ماجه: ١٨٥٥؛ سنن النسائي: ٣٢٣٤۔ ﴾ صحيح بخاري ، كتاب النكاح ، باب إلى من ينكح وأي النساء خير ، رقم: ٥٠٨٢؛ صحيح مسلم: ٢٥٢٧ (٦٤٥٨)۔

دلربابیوی

گھر میں بہترین آرائش وزیباش کے ساتھ، اور عمدہ خوشبو سے معطر ہو کر رہنے والی

بہترین آرائش وزیباش کا اہتمام کر کے اپنے خاوند کو خوش کر دے، اپنا بہترین لباس منتخب کر، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر لوئے تو اسے پہن کر اس کے سامنے آ، اپنی فہم فرست سے ان کپڑوں کا انتخاب کر، جو خاوند کو پسند ہیں اور انہیں کپڑوں میں خاوند کے سامنے آنے کی کوشش کر۔ اس لہن کی طرح زیب وزینت اور خوبصورتی کا اہتمام کر جس کی خصیتی ہونے والی ہے۔ تو اس کے لیے وہ حلال عورت ہے جس میں اسے رغبت ہوئی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ اپنی نگاہ کو پست رکھ پائے گا اور حرام و ناجائز سے اپنی شرمگاہ کو محفوظ کر پائے گا، لہذا تو اس کے لیے ایسی خوبصورت ترین عورت بن جو اپنے خاوند کے لیے زیب وزینت اختیار کرتی ہے۔ تم میں اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے جس سے اسے کراحت ہو اور نہ تمہارے جسم سے وہ کبھی بدبو محسوں کرے۔

عورت کو ایک محفوظ موتی اور چھپے ہوئے ہیرے کی مانند ہونا چاہیے، جسے جب بھی خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کی محبت میں اضافہ ہو، جیسا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہی ہے؟ تو آپ نے اس کی ایک صفت یہ بیان کی:

((وتسر إذا نظر))

”خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے۔“

اس میں ظاہری آرائش وزیباش، خوبصورت لباس، عمدہ خوشبو، خندہ پیشانی، مودت و محبت، خاوند کی بات کو انتہائی توجہ سے سننا، اس کے ساتھ گفتگو میں پوری طرح شریک ہونا اور ہنسی مذاق وغیرہ سب شامل ہیں۔

سنن النسائي، ۳۲۳ و سندہ حسن، كما تقدم۔

تمہارا حال آج کل کی اُن عورتوں کی مانند نہیں ہونا چاہیے، جوان باتوں کا ذرا بھی لحاظ نہیں رکھتیں، نہ یہ صفات ہی اپنے اندر پیدا کرتی ہیں۔

خاوند جب ان کے ہاں آتا ہے تو انہیں کام کام کاج کے گندے کپڑوں میں، بدترین حالت میں اور ناگفتہ بے کیفیت میں دیکھتا ہے۔ اس بنابر وہ بیوی سے فرار اور پہلو تھی کی راہ تلاش کرتا ہے۔ بعض اوقات کسی اور کی تلاش اور طلب میں نکل کھڑا ہوتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ (والعیاذ باللہ)

اللہذا مسلم خواتین!

اپنے معاملے میں اور اپنے شوہروں کے معاملے میں اللہ سے ڈر واور ان کے لیے فتنہ کا سبب اور جادہ مستقیم سے انحراف کی وجہ مت بنو۔ کہیں تمہاری لاپرواہی سے وہ بد بخختی کے گڑھے میں نہ گرجائیں۔

شادی کے موقع پر باپ کے بیٹی کو وصیت کرنے کے بارے میں کچھ روایات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک روایت سعید بن زید بیان کرتے ہیں:

ابوالاسود الدؤلی نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو لڑکی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی: ”ابا جان! آپ سے جدا ہونے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن جب آپ نے میری شادی کر ہی دی ہے تو مجھے وصیت کیجئے۔“

اس پر انہوں نے کہا:

((إنك لن تنالى ما عنده إلا باللطف واعلمى إن أطيب الطيب

الماء))

” بلاشبہ لطف وزیری کے بغیر اپنے خاوند سے کچھ حاصل نہیں کر سکتی، اور یاد رکھ! بہترین خوبیوپانی ہے۔“

اسی طرح ماں کے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر، وصیت کرنے کی روایات میں سے

* احکام النساء لابن الجوزی، ص: ۲۱۹؛ المعمرون والوصايا لأبی حاتم السجستانی، ص: ۴۷۔

ایک روایت عبد الملک بن عمر بیان کرتے ہیں:
 جب عوف بن ملجم الشیبانی نے اپنی بیٹی کا بیباہ، ایاس بن الحارث بن عمر والکندی سے کیا تو بیٹی کو تیار کیا گیا اور جب رخصتی کا وقت آیا تو لڑکی کی والدہ امامہ اسے وصیت کرنے کے لیے اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی:

”پیاری بیٹی! اگر ادب میں اعلیٰ مقام اور حسب و نسب کے عالی شان ہونے کی وجہ سے کسی کا وصیت نہ کرنا روا ہوتا تو میں تجھے وصیت کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتی اور تجھے پند و نصیحت سے بالا سمجھتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وصیت ایسی چیز ہے جو غافل کی غفلت دور کر دیتی ہے اور سمجھدار کے لیے علم و عرفان کا ذریعہ نہیں ہے۔

اے بیٹی! اگر باپ مالدار ہونے کی وجہ سے، یا والد کی سخت ضرورت اور اس کی محبت کی بنا پر، کوئی عورت خاوند سے بے نیاز ہو سکتی، تو تو سب سے زیادہ بے نیاز ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، عورت میں پیدا ہی مردوں کے لیے کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔

اے بیٹی! تو اس ماحول کو خیر باد کہہ رہی ہے جہاں تیری پیدائش ہوئی، اور اس گھونسلے کو چھوڑ رہی ہے جہاں تو پلی بڑھی۔ یہ سب چھوڑ کر تو اس مقام کی طرف جا رہی ہے جس سے تیری وابستگی نہیں ہے اور اس ساتھی کی طرف جا رہی ہے جس کے ساتھ تو مانوس نہیں ہے۔ وہ تیرا مالک بن کر بادشاہ بن گیا ہے، تو اس کی لوٹڑی بن کر رہے گی تو وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ اس کے بارے میں دس باتوں کو پلے باندھ لے، یہ تیرے لیے پختہ کاری اور یاد دہانی کا ذریعہ نہیں گی۔

پہلی اور دوسری بات

خاوند کے ساتھ قناعت سے رہنا، اور زندگی گزارتے ہوئے اس کی ہربات غور سے سننا اور اطاعت کرنا، کیونکہ قناعت میں دل کی راحت ہے، اور بات

غور سے سن کر ماننے میں رب کی رضا ہے۔

تیری اور چوتھی بات

اپنے شوہر کی نگاہ اور اس کی پسندیدہ خوبصورتی کا خیال رکھنا اس کی نگاہ تجھے میں کوئی
ناپسندیدہ چیز نہ دیکھے اور اس کا ناک تجھے سے عمدہ خوبصورتی پائے۔ موجود چیزوں
میں سے سرمهہ بہترین چیز ہے اور پانی بہترین خوبصورتی ہے، جو محضوں نہیں ہوتی۔

پانچھویں اور چھٹی بات

اپنے سرتاج کے کھانے کے اوقات کو نظر رکھنا، اور اس کی نیند کے وقت ممتاز
رہنا، کیونکہ بھوک کی شدت آدمی کو بھڑکاتی ہے، اور نیند کی خرابی غصباک بنा
دیتی ہے۔

ساتویں اور آٹھویں بات

اپنے مجازی خدا کے قربت داروں اور اہل و عیال کا لحاظ رکھنا، اور اس کے مال
کی حفاظت کرنا، کیونکہ مال کی حفاظت حسن تقدیر کی علامت ہے، اور قربت
داری و رشتہ داری کا لحاظ حسن تدبیر کی۔

نویں اور دسویں بات

اپنے آقا والک کا کوئی راز افشاں مت کرنا، اور کسی بھی حال میں اس کی
نافرمانی سے بچنا، اگر تو نے اس کے کسی راز کو کھولا تو اس کی بے وفائی سے محفوظ
نہیں رہے گی، اور اگر اس کی نافرمانی کرے گی تو اس کے سینے کو غصہ و نفرت
سے بھردے گی۔

اے میری پیاری بیٹی! جب وہ کبیدہ خاطر ہو تو اس کے سامنے خوشی کا اظہار
مت کرنا، اور جب وہ خوش ہو تو منہہ ب سور کرنہ بیٹھنا، کیونکہ پہلی عادت کوتاہی
شمار ہوتی ہے اور دوسرا سے ماحول گدلا ہوتا ہے۔

تجھے سے جس قدر ہو سکے اس کا اکرام کرنا، انجمنی عزت و عظمت کے رتبہ پر
فائز کرنا اور زیادہ سے زیادہ اس کی موافقت کرنا۔

اور بیٹی یاد رکھنا! جب تک تو اپنی پسند و ناپسند میں، اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر
قربان نہیں کرے گی اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہیں دے گی،
اسکی محبت اور اس کے پیار کی اس مقدار کو حاصل نہیں کر سکے گی جب تک حاصل
کرنا چاہتی ہے۔“

اللہ تیرے لیے خیر و بھلائی کا سامان کرے اور تیری حفاظت فرمائے۔
اس کے بعد خصتی ہو گئی اور پھر ان وصیتوں پر عمل کی بدولت اس لڑکی نے اپنے خاوند
کے ہاں بڑی عظمت پائی، اور وہاں کے لیے بادشاہوں کو جنم دیا جنہوں نے اس کے بعد
ماہشہرت کی۔

^{٣٠} أحكام النساء لابن الجوزي، ص: ٢٢٠؛ فقه السنة لسيد سابق، ٢/ ٢٣٤؛ مجمع الأمثال لأبي الفضل النسائيوري، ٢/ ٢٦٢.

دلربایوی

پاک دامب اور شریف

اچھی اور بہترین شریک حیات کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شک و شبہ سے بچاتے ہوئے، ان مواقع اور ان جگہوں سے بھی گریز کرتی ہے جہاں شک و شبہ میں پڑنے کا ادنیٰ سامنہ اندیشہ ہو۔

اپنی نگاہ کو حرام دیکھنے سے بچاتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ حرام کا شائبہ تک نہ آنے پائے اور کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ سے اپنی شرف و عزت کی چادر کو داغدار نہیں ہونے دیتی۔

اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

((فاظفر بذات الدین تربت یداک)) ﴿۱﴾

”تیرے ہاتھ خاک الکود ہوں، دیندار عورت کو ترجیح دے کر کامیابی حاصل کر۔“

نیز آپ ﷺ نے فرمایا:

((وتحفظه في نفسها وماله)) ﴿۲﴾

”وَعُورَتْ جَوَانِي أَوْ رَأْبَنْ شَوَّهَرَ كَمَالَ كَيْ بَحْرِي حَفَاظَتْ كَرَے۔“

اس صفت میں بھی یہ شامل ہے کہ عورت شک کے موقع پر اپنے آپ کو مستور رکھے، گھر سے باہر بے لباس نہ ہو، ورنہ اس کے اور اللہ کے درمیان جو عقل ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْ اُنْرَأَةٍ تَخْلُعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَّكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ

الله)) ﴿۳﴾

❶ صحیح بخاری: ٥٠٩٠؛ صحیح مسلم: ١٤٦٦، كما تقدم۔ ❷ سنن النسانی: ٣٢٣٣
وسننه حسن، كما تقدم۔ ❸ استناده حسن، سنن ابی داود، کتاب الحمام، باب الدخول
فی الحمام، رقم: ٤٠١٠؛ سنن الترمذی: ٢٨٠٣؛ سنن ابن ماجہ: ٣٧٥٠۔

”جو عورت گھر سے باہر کپڑا اتارتی ہے اس کے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔“

اسی طرح نیک عورت اپنے ستر کو اجنبیوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھتی ہے، حتیٰ کہ عورتوں سے بھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة)) ﴿

”کوئی مرد کی اور کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے۔“

❶ صحیح مسلم، کتاب الطهارة، باب تحریر النظر الى العورات، رقم: ۷۶۸ (۳۲۸)۔

دلربا یوئی

اپنے خاوند کی شکر گزار رہتی ہے، ناشکری نہیں کرتی

نیک خاتون کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ شکر گزار رہتی ہے، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتی ہے، کسی بھلائی اور خیر خواہی کی ناشکری یا انکار نہیں کرتی اور اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل پیرا رہتی ہے۔

﴿هَلْ جَاءَءُ الْأَحْسَانُ إِلَّا لِلْأَحْسَانِ ﴾

”احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ کے اس حکم پر بھی عمل پیرا رہتی ہے جو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر

کے فرمایا تھا:

((إِيَاكُنْ وَكُفْرُ الْمُنْعَمِينَ)) فقلن يا رسول الله وما كفر المぬمين؟ قال: ((لعل إحداكن تطول أيامتها بين أبوها و تعنس فيرزقها الله عزوجل زوجاً ويرزقها منه مالاً ولذاً فتفض

الغضبة فتقول ما رأيت منه يوماً خيراً قط))

”احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچتا۔ تو ہم (عورتوں) نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ممکن تھا کہ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر میں لمبی عمر بن بیا ہی بیٹھی رہتی اور کنواری ہی بوزہی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے شوہر سے نوازتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ماں اور اولاد عطا فرماتے ہیں، پھر وہ کچھ غصے میں آتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے: میں نے اس سے کبھی بھلائی اور سکھنیں پایا۔“

١٥٥ / الرحمان: ٦٠۔ ۲ استنادہ حسن، مستند احمد، ۶/۴۵۲، رقم: ۲۷۵۶۱؛ مستند حمیدی: ۱/۳۵۸، رقم: ۳۷۰؛ مستند ابی یعلی: ۶۳۷۰، سغیان بن عینیہ نے مالع کی صراحت کر کی ہے۔

اور آپ ﷺ نے خطبہ کسوف میں فرمایا تھا:

((رأیت اکثر اهلیہا۔ ای النار۔ النساء))

”میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے۔“

لوگوں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ ﷺ اس کی وجہ؟

آپ ﷺ نے جواب دیا کہ اپنی ناشکری کی وجہ سے۔

لوگوں نے پوچھا: ”کیا یہ اللہ کی ناشکرگزار ہوتی ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا:

((بِكُفْرِ الْعَشِيرِ وَبِكُفْرِ الْإِحْسَانِ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ

ثم رأَتِيْنَكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتَ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ)) ۚ

”شریک حیات کی ناقدری اور اس کے احسان کی ناشکری کی وجہ سے، اگر تو کسی عورت کے ساتھ طویل زمانہ احسان کرتا رہے اور پھر کسی موقع پر وہ تجوہ میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو کہے گی: میں نے تو تجوہ سے کبھی خیر نہیں پائی۔“

حدیث میں جو کفر کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد احسان و نعمت کا انکار، خاوند کی ناشکری اور اس نیکی کی ناقدری و ناشکری ہے جو خاوند اس کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔

نیک خاتون اور اچھی بیوی:

وہ خوب اچھی طرح سے واقف ہوتی ہے کہ اس کے خاوند کو اس پر کتنی فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے جب کبھی غصے میں ہوتی ہے تو اس کی نیکی اور اچھائی کی ناقدری اور اس کے احسان کا انکار نہیں کرتی، بلکہ غصہ پی جاتی ہے اور خاوند کے اس فعل سے درگزر کرتی ہے جسے یہ لغزش اور غلطی سمجھ رہی ہوتی ہے۔ شیطان کے شر، وسوسا اور اپنے اور اپنے خاوند کے درمیان اس کے فساد ذائقے سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہے۔ اللہ سے معافی مانگتی ہے، انا للہ پر وحیتی ہے اور اپنے غصے کی آگ بخانے کے لیے وضو کرتی ہے۔

* صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب کفر ان العشیر و کفر دون کفر، رقم: ۹۲، ۲۹

صحیح مسلم: ۹۰۷ (۲۱۰۹)، سنن ابی داود: ۱۱۸۹؛ سنن النسانی: ۱۴۹۲

اور جب اپنے خاوند کے احسان دیکھتی ہے تو اپنے قول، فعل اور حسن معاشرت کے ذریعے سے اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مِنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسُ﴾

”جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکرگزار نہیں بن سکتا۔“

اور شکرگزاری کا سب سے زیادہ حقدار اچھا خاوند ہے، یہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی، نیکی اور حسن معاملہ سے پیش آیا جائے اور اچھے لفظوں میں اس کا ذکر کیا جائے۔

آج کل کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ مسلم خواتین کی اکثریت اپنے خاوندوں کی جاہ وحشمت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتیں، نہ ان کے کسی احسان کی شکرگزاری ہوتی ہیں، نہ ان کے ساتھ حسن معاملہ سے پیش آتی ہیں، بلکہ آج کل خود خاوند کو کوشش کرنا پڑتی ہے کہ یہوی کی غلطی کے باوجود دادے خوش رکھے اور اس کے برے رویہ کے باوجود اس کا شکرگزار رہے۔

اے مسلمان یوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اپنے شوہروں کے معاملے میں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھاؤ، وہ تمہیں جو حکم دیں اس کی تابع داری کرو اور گناہ کے علاوہ کبھی ان کی نافرمانی نہ کرو۔ تمہارا اپنے خاوندوں کے ساتھ طور طریقہ محبت و مودت اور قدر دانی کا ہونا چاہیے۔ تمہاری زبان سے یہ الفاظ جاری رہنے چاہیں:

”جزاکم اللہ عننا خير الجزاء واعانکم على بربنا، واعاننا على طاعتكم“

”اللہ تمہیں ہماری طرف سے بہترین بدلہ دے، اور ہم سے نیکی و حسن سلوک پر تمہاری مدد کرے اور تمہاری اطاعت و فرمانبرداری پر ہماری مدد فرمائے۔“

دلربابیوی

اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنے والی

اپنے گھر اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھ، تاکہ تیر انفس، تیرا خاوند، تیری اولاد اور تیرا گھر ہر قسم کے شر سے، ہر حسد کرنے والی آنکھ سے اور ہر مرد و دشیطان سے محفوظ رہے۔ صبح و شام کے اذکار میں کبھی ناغمہ نہ ہونے پائے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کے الفاظ الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله اور لا حول ولا قوة الا بالله کے الفاظ ادا کیا کر۔

قرآن کی تلاوت روزانہ ہونی چاہیے خواہ تھوڑی ہی ہو، کیونکہ تھوڑا عمل جس پر مدد اور مدد اختریار کی جائے اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں انقطاع ہو۔ اگر تیرا خاوندان اذکار کا عادی نہیں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا اکثر ویژتھر اس کے سامنے ذکر کرتے رہنا، ایسا محرک بن جائے گا جو اسے تیری پیر وی پرا بھارے گا۔ اس لیے اپنے خاوند اور اپنی اولاد کے لیے خیر و بھلائی کی کنجی اور شر کو روکنے کا ذریعہ بن جا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿فَإِذْكُرُونَ أَذْكُرْ كُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ لَا تَكْفُرُونَ ﴾

”تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہوںا شکری سے بچو۔“

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْكُرْ بَكَ فِي نَفْسِكَ تَظَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهَرِ مِنَ القَوْلِ بِالْغُدُوِّ

وَالْأَصَالِ وَ لَا تَكُنْ قَنَ الْغَفَلِينَ ﴾

”اپنے دل میں اپنے رب کو یاد رکھو، گڑگڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور

صحیح و شام پست آواز میں بھی، اور غافلوں میں سے مت ہونا۔“
اور نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

((مَثُلُ الْبَيْتِ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ

مَثُلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ))

”اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس گھر کی جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔“

اور ایک مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا: ((سبق المفردون)) کے مفرد لوگ سبقت لے گئے، صحابے نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ یہ مفرد کون ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ((الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ))
”کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔“ ②

1) صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوائزها في المسجد، رقم: ٧٧٩ (١٨٢٣) واللفظ له، صحيح بخاري: ٦٤٠٧

2) صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم: ٢٦٧٦ (٦٨٠٨)

دلربابیوی

اپنے شوہر کو اطاعت و فرمانبرداری اور نیکی کے کاموں پر

ابھارنے والی

خاوند کو اگر اپنی بیوی سے پیار ہوتا وہ خیر و بھلائی کے کاموں میں اس کی پیروی اور مشاہدہ اختیار کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے اسے راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔
خاوند کے اس جذبے کے وزیر آتش پا کر، اور اس کے دل میں نیکی کا نتیجہ ہونے اور بکثرت اطاعت و فرمانبرداری کے کام کرنے کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کر۔ اپنے آپ میں عزیت پیدا کر اور خیر و بھلائی کے کاموں میں اسے شریک رکھ۔ نوافل اور قیام اللیل میں اس کی مدد لے اور بڑی نرمی، چاہت اور پیارے انداز سے اسے کہہ:

”میرے پیارے محبوب! اللہ کی اطاعت پر ذرا میری مدد کیجئے، آئیے میرے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اللہ کے لیے دوری کاٹ پڑھ لیں۔“

”میرے سر تاج! آؤ ناں، کیوں نہ ہم اجر و ثواب تقسیم کر لیں۔ کتنا ہی بہتر ہو گر آپ اپنا مال اللہ کے لیے صدقہ کر دیں۔ اس پاک ذات نے ہمیں رزق سے نوازا ہے اور اس میں برکت فرمائی ہے، تو کیوں نہ ہم اس انداز میں اس کا شکر ادا کریں جو اسے پسند ہے۔“

”اے میری جان! کیا آپ نے فارغ اوقات میں اللہ کا ذکر کیا تھا؟“

”اے میرے بادشاہ! کیا آپ نے آج اپنا تلاوتِ قرآن مجید کا ورد مکمل کیا ہے؟“

جب تمہارا خاوند صبح کی نماز کے لیے بیدار ہوتا سے صبح کے اذکار یاد دلا، اسی طرح شام کے وقت شام کے اذکار کی یاد دہانی کرو، صدر حجی میں اس کی معاونت کر، اور اس کی وجہ سے اگر اس کے گھر والوں کی طرف سے اذیت پہنچتی تو صبر کا داؤن تھا میر کھننا اور صورت حال کیسی بھی ہو

اسے قطعِ حجی کا ہرگز نہ کہنا الایہ کہ کوئی فسادی آدمی ہو جس کی صحبت میں بھلائی کی کوئی توقع نہ ہو۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((رَحْمُ اللَّهِ أَمْرَأَةٌ قَامَتْ مِنَ اللَّيلِ، فَصَلَتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا

فَصَلَىٰ - فَإِنْ أَبِي نَضَجَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءُ)) ۱

”اللَّهُ تَعَالَىٰ اس عورت پر حرم فرمائے جو رات کاٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے، اگر وہ بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھیننے مارے۔“

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَسْتِيقَظَ مِنَ اللَّيلِ وَأَيْقَظَ أُمَّرَأَهُ فَصَلَيَا جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ كَعْتَيْنِ

مِنَ الْذَّاكِرَتِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالْذَّاكِرَاتِ)) ۲

”جو شخص رات کو بیدار ہو اور اپنی اہلیہ کو بھی جگائے، پھر دونوں دور کعت نمازاً دا کریں تو دونوں کو بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والوں اور کرنے والیوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”ایک آدمی نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! فلاں آدمی کا ایک کھجور کا درخت ہے، میں اپنا باغ اسی کے ذریعے سے چلا سکتا ہوں، آپ اسے کہیں کہ وہ اپنی کھجور مجھے دے دے تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنا باغ چلا سکوں۔ آپ نے کھجور والے سے کہا:

((أَعْطَاهُ إِيَاهُ بَنْخَلَةً فِي الْجَنَّةِ))

۱- استنادہ حسن، سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب قیام اللیل، رقم: ۱۳۰۸، ۱۴۵۰؛ سنن ابن ماجہ: ۱۳۳۶؛ سنن النسائی: ۱۶۱۱؛ ابن خزیم: ۱۱۴۸؛ ابن حبان: ۱۶۴۶؛ المستدرک للحاکم، ۱/۳۰۹۔ ۲- استنادہ ضعیف، سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب قیام اللیل، رقم: ۱۳۰۹؛ سنن ابن ماجہ: ۱۳۳۵؛ اعشش مدرس میں اور علمائے کی صراحت نہیں ہے۔

”یہ کھجور باغ والے کو دے دو، اس کے بد لے تمہیں جنت میں کھجور کا درخت
ملے گا۔“

وہ آدمی نہ مانا، حضرت ابوالحداد رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنی
یہ کھجور مجھے میرے پورے باغ کے بد لے میں دے دو، اس پر وہ مان گیا۔

ابوالحداد نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے:

”یا رسول اللہ ﷺ! میں نے وہ کھجور اپنا باغ بیچ کر خریدی ہے، اے اللہ کے رسول ﷺ!

آپ یہ کھجور اس باغ والے کو دے دیں میں نے یہ آپ کو دی۔“

اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

((کم من عذر رداح لأبى الدحداح فى الجنة))

”جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے بڑے بڑے چلدار درخت ہیں جو ابوالحداد
کو ملے ہیں۔“

راوی کہتے ہیں: اس کے بعد ابوالحداد اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگے: ”اے ام
حداد! باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے اسے جنت میں کھجور کے ایک درخت کے بد لے بیچ دیا
ہے۔“

اس پر وہ فرمائے گئیں:

”رب البيع أو كلمة تشبهها“ ①

”بڑا سود مند سودا کیا ہے، یا اس معنی کا کوئی اور جملہ کہا۔“

خور کر! ابوالحداد کی بیوی نے اس معاملے میں ان سے بحث یا جھگڑا انہیں کیا، بلکہ
انہائی خوشی اور رغبت کا اظہار کیا اور کہا: ”رب البيع“
اور حضرت انس ہی سے مردی ہے:

ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلیم نے جواب دیا:

① استناده صحيح، مسنند احمد، ۱۴۶/۳، رقم: ۱۲۴۸۲؛ مسنند عبد بن حمید: ۱۳۳۴؛
صححہ ابن حبان: ۷۱۵۹ و الحاکم، ۲/۲۰ و وافقہ الذہبی۔

”آپ جیسا رشتہ مورا تو نہیں جا سکتا، لیکن میرے لیے آپ سے شادی کرنا حلال نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں آپ کافر ہیں، البتہ اگر آپ اسلام لے آئیں تو یہی میرا مہر ہو گا اور میں آپ سے اس کے علاوہ کچھ نہ مانگوں گی۔“

اس پر ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور ان سے شادی کر لی۔

ثابت فرماتے ہیں: ”ام سلیم کے حق مہر سے بہتر حق مہر ہم نے نہ دیکھا نہ سنا، اسلام کا

حق مہر۔“ *

* استادہ حسن، سنن النسائی، کتاب النکاح، باب التزویج علی الاسلام، رقم: ۳۳۴۲، ۳۳۴۳ و صححہ ابن حبان: ۷۱۸۷

دلربابیوی

صبر و ایمان والی

عورت کا دین اگر خالص ہو تو اسے آنے والے مصائب و مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ پورے صبر اور کامل ایمان کے ساتھ ان کا سامنا کرتی ہے، کیوں کہ جو دکھ اسے پہنچتا ہے وہ اس سے ملنے والا نہیں، اور جو نہیں پہنچنا وہ آنے والا نہیں ہے۔

اگر خاوند یا اولاد کے سلسلے میں اسے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس آزمائش میں بھی پورے صبر کے ساتھ ان کے سارے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اور اگر کوئی دکھ، غم یا بیماری آجائے تو بھی اللہ کی شکر گزار رہتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس نے عافیت بھی تو دے رکھی ہے، اگر اس نے کچھ لیا ہے تو بہت کچھ دیا بھی تو ہے۔

اگر وہ جلد امید سے نہ ہو یا رزق میں کمی ہو، تو بھی وہ قطعاً جز عذاب فرع نہیں کرتی، بلکہ وہ

اللہ رب العزت کے اس فرمان کی مصدق اُبین کر رہتی ہے۔

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ وَالْفَقِيرِينَ وَالْفَقِيرَاتِ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَيْرِينَ وَالْخَيْرَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَرُوْجَهُهُ وَالْحِفْظَاتِ وَالذَّكِيرَاتِ اللَّهُ أَكْثِرًا وَالذَّكِيرَاتِ أَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

” بلاشبہ مسلمان مرد اور عورتیں، اطاعت گزار مرد اور عورتیں، سچے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ دار مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور کثرت سے اللہ کو یاد

کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا انتظام کر رکھا ہے۔“

اور بہت عزت والی ہے وہ ذات جس نے مصائب و آلام پر صبر کرنے والے کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْعِصُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالآنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۖ وَبَيْقِرُ الصَّابِرِينَ ﴾ ﴿۲﴾

”هم تمہیں خوف اور بھوک میں مبتلا کر کے، اور جان و مال اور سچلوں میں کمی پیدا کر کے ضرور آزمائیں گے، اور جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَمَا أَعْطَى إِحْدًا مِّنْ عَطَاءٍ خَيْرًا وَّاَوْسَعَ مِنَ الصَّابَرِ)) ﴿۲﴾

”کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع نعمت سے نہیں نواز گیا۔“

اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

((عَجَّا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَمْرَةً كُلُّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا
لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ
صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)) ﴿۳﴾

”مؤمن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے ہر صورت میں خیر و بھلائی ہی ہے اور یہ مؤمن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، جو اس کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے اور اگر اسے بدحالی یا تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتری ہی کا سبب بنتا ہے۔“

﴿٢﴾ البقرة: ١٥٥۔ ﴿٢﴾ صحيح بخاری ، کتاب الزکاة ، باب الاستغفار عن المسألة ، رقم: ١٤٦٩ ، صحيح مسلم: ١٠٥٣ (٢٤٢٤)؛ سنن ابی داود: ١٦٤٤؛ سنن الترمذی: ٢٠٢٤۔
 ﴿٣﴾ صحيح مسلم ، کتاب الرہد والرقائق ، باب المؤمن أمره کله خير ، رقم: ٢٩٩٩ (٧٥٠٠)۔

دلربابیوی

اجروثواب کی امیدوار، اناللہ پڑھنے والی

صریحیل کے ساتھ اجر و ثواب کی امید بھی رکھ۔ تجھے جو بھی دکھ تکلیف پہنچ اس پر اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب کی توقع رکھ اور ”انا لله وانا علیہ راجعون“ پڑھ کر اللہ رب العزت کے اس فرمان پر لبیک کہہ:

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ لَا يَأْتُوا إِلَيْنَا لَذِكْرٍ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ أُولئِكَ

عَلَيْهِمْ صَلَوةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَدَّدُونَ ﴾﴾

”وہ لوگ جو مصیبت آنے پر ”انا لله وانا علیہ راجعون“ پڑھتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف پٹھنا ہے۔ ان پر اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

اور رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان پر عمل بھی اسی صورت میں ہوگا:

((ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: انا لله وانا علیہ راجعون اللهم أجرني في مصيبي وخالف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها))

”کوئی بھی مسلمان مصیبت آنے پر جب وہ کہتا رہے جو اللہ نے اسے کہنے کا حکم دیا ہے، یعنی ”ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پٹھنے والے ہیں، اے اللہ میری مصیبت کو میرے لیے باعث اجر و ثواب بناوے اور مجھے اس چیز سے بہتر عطا فرمادیں“ (جس سے میں محروم کر دیا گیا) تو اللہ رب العزت اسے بہتر عطا فرمادیتے ہیں۔“

۱۔ البقرة: ۱۵۶، ۱۵۷۔

۲۔ صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، رقم: ۹۱۸ (۲۱۲۶)۔

حضرت ام سلمہؓ کے خاوند ابو سلمہؓ جب فوت ہوئے تو انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو سلمہؓ سے بہتر خاوند عطا فرمایا اور نبی اکرمؐ نے ان سے شادی کر لی، جس سے ان کا شمار امہات المؤمنین میں سے ہونے لگا۔

ایک مرتبہ نبی کریمؐ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بیٹے کی قبر پر رورہی تھی، آپ نے اس سے فرمایا:

((اتقى الله واصبرى))

”اللہ سے ڈرا اور صبر سے کام لے۔“

وہ کہنے لگی: ”تمہیں وہ مصیبت نہیں آئی جو مجھے آئی ہے۔“

اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ نبیؐ ہیں تو وہ آپ کے پاس گئی اور مغدرت کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا:

((إنما الصبر عند الصدمة الأولى)) ﴿١﴾

”صبر صدمہ کے شروع میں ہی ہوتا ہے۔“

اور ابی بن کعبؓ بیان کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

((إن لك ما احتسبت)) ﴿٢﴾

”تجھے اسی پر اجر ملے گا جس پر تو نے اجر و ثواب کی نیت کی ہوگی۔“

مسلمان عورت پر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، پریشانی یا دکھ کا سامنا ہوتا ہے، خواہ وہ اس کے اپنے متعلق ہو یا خاوند، اولاد اور مال و متعہ کے سلسلے میں، وہ اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کی توقع رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت کے فضیلے یا تقدیر پر اعتراض نہیں کرتی، اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر میں ایسے کر لیتی تو ایسے ہو جاتا، بلکہ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر یوں ہی تھی، اس نے جو چاہا کیا۔ وہ اس پر اناللہ۔۔۔ پڑھ کر صبر کرتی ہے اور خاوند کو بھی اس پر ابھارتی ہے۔ نہ وہ خود اللہ کی رحمت سے مالیوس ہوتی ہے نہ اپنے خاوند کو ہونے دیتی ہے۔

﴿١﴾ صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب فی الصبر علی المصيبة۔ ح: ۹۲۶ (۲۱۴۰)۔

﴿۲﴾ صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطأ الى المسجد، ح: ۶۶۳ (۱۵۱۶)۔

اس سلسلے میں حضرت ام سلیم رض کا عمل تیرے لیے چراغ راہ ہونا چاہیے۔ یہ ابو طلحہ رض کی بیوی اور انس بن مالک رض کی والدہ ہیں۔ یہ مؤمنہ اور اپنے ایمان میں بھی عورت ہیں جو صبر کرنے والی، اجر و ثواب کی امیدوار اور اناللہ پڑھنے والی ہیں، جنہوں نے اپنے بچے کی وفات کی مصیبت کو بڑے صابر دل اور رضا مند نفس کے ساتھ قبول کیا، اس پر اجر و ثواب کی نیت کی اور بڑے عمدہ طریقے سے اپنے خاوند کو بچے کی وفات کے متعلق بتایا۔ پھر اللہ رب العزت نے خاوند کو اس بیوی سے بہتر رزق سے نوازا۔ حضرت انس رض سے مروی ہے کہ

”ام سلیم کے خاوند ابو طلحہ کا اس بیوی سے ایک بیٹا تھا، جس کا نام حفص تھا۔ یہ لڑکا تقریباً دس سال کا ہو گیا تھا۔

ایک دن ابو طلحہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، وہ صحیح اپنے کام کے لیے چلے گئے اور ام سلیم گھر کے کام میں مصروف ہو گئیں۔ لڑکا باہر بچوں کے ساتھ کھملنے لگا۔ جب وہ کھانے کے وقت گھر آیا تو ایک چادر لپیٹ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ام سلیم ناشستہ تیار کر کے اسے آوازیں دیئے گئیں، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ام سلیم نے یہ صورت حال دیکھی تو اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو وہ نیند میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے دیے ہی لپٹا دیا اور گھر کے کام کرنے لگیں۔ شام کے وقت ابو طلحہ آئے تو انہوں نے انہیں افطاری کا سامان دیا۔ ابو طلحہ کہنے لگے کہ میرے بیٹے حفص کو بھی بلاو، وہ بھی میرے ساتھ کھالے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ فارغ ہو چکا ہے۔

ابو طلحہ افطار سے فارغ ہوئے تو یہاں کے قریب ہوئیں حتیٰ کہ جب ابو طلحہ نے وہ کام کر لیا جو ایک مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے اور فارغ ہو گئے تو یہ کہنے لگیں: ”ابو طلحہ! کیا خیال ہے؟ اگر کوئی آدمی آپ کو عاریتاً کوئی چیز دے، آپ ایک عرصے تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہیں، پھر وہ آدمی آپ سے وہ چیز واپس لینا چاہے تو کیا آپ دل میں

اس کے خلاف غصہ اور ناراضگی رکھیں گے؟“

انہوں نے جواب دیا: ”نہیں، تمہارے باپ کی قسم! اگر میں ایسا کروں تو یہ ظلم ہوگا۔“

تب ام سلیم نے کہا:

”تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے حفص کی صورت میں ایک امانت دی تھی۔

اس کی مرضی ہوئی، اس نے وہ واپس لے لی، اور وہ اس کا حق رکھتا ہے۔“

ابو طلحہ نے انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر دونوں نے اٹھ کر اس کی تجدید و تکفیر کی اور فارغ ہو گئے۔ صحیح ہوئی تو ابو طلحہ نے سارا واقعہ رسول اللہ ﷺ کے گوش

گزار کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((اللهم بارك لهم في ليلتهما))

”اے اللہ! ان دونوں کی اس رات میں برکت فرماء۔“

چنانچہ ام سلیم حاملہ ہوئیں اور اڑکا پیدا ہوا۔

جب یہ حالت نفاس میں آئیں تو اپنے بیٹے انس بن مالک سے کہا: ”بیٹا! اے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤ، وہ اسے گھٹی دیں گے اور نام رکھیں گے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کر رسول اللہ ﷺ کی طرف چل دیے۔

جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مسجد میں تشریف فرماتھے، آپ نے فرمایا:

”ام سلیم حالت نفاس میں پہنچ گئی ہیں؟“

انہوں نے کہا: ”جی ہاں، اور انہوں نے بچے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ اسے گھٹی دیں اور نام رکھیں۔“

آپ ﷺ نے اس کا نام عبد اللہ رکھا، ایک کھجور لے کر چباتی اور اسے بچے کے منہ میں ڈال کر گھٹی دی۔ بچے نے کھجور کی محسوسی کی تو اسے چائے

لگا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((حب الانصار التمر)) ﴿
 ”انصار کو تھجور سے محبت ہے۔“

* صحيح بخاری، کتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، رقم: ١٣٠١، ٥٤٧٠؛
 صحيح مسلم: ٢١١٩ (٥٥٥٤) تنبیہ: درج بالامثل کو الفاظ صحیحین کئیں ہیں بلکہ یہ مسنند احمد
 (۱۸۱/۳): المعجم الكبير للطبراني (٢٥/١١٦، ١١٧) وغیرہ کے میں، البت مفہوم بالکل صحیح ہے۔

دلربابیوی

دل کی غنیٰ اور سیر چشم

اچھی بیوی کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتی۔ دوسروں کے مال و متاع سے بے پرواہوتی ہے، جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی پر خوش رہتی ہے، دوسروں کو جس مال و دولت سے نواز گیا ہے اس کی طرف لاپچی نگاہوں سے نہیں دیکھتی۔ اپنے پروردگار کی تعریف میں رطلب اللسان، اس کے فضل و احسان پر شکرگزار اور اللہ رب العزت کے ان فرمائیں پر عمل پیرا ہوتی ہے:

﴿وَلَا تَمْدَدَنَ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ ۱

”آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ اٹھائیں، جس سے ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے۔“

﴿وَلَا تَمْدَدَنَ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِغَنَّتِهِمْ فِيهِ طَوْرَانٌ وَرِزْقٌ رِبِّكَ خَيْرٌ وَأَنْفُقٌ﴾ ۲

”آپ اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ اٹھانا، جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں، تا کہ انہیں اس میں آزمائیں۔“

﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا لِقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ اللَّهَ طَوْرَانٌ وَمَنْ يَتَكَبَّرْ فَإِنَّمَا يَتَكَبَّرْ لِنَفْسِهِ﴾ ۳

”ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی سے نوازا تھا کہ اللہ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز اور تعریقوں والا ہے۔“

اور نبی ﷺ کے ان فرمائیں کی تابعداری کرتی ہے۔

((من يستعفف يعفه الله ومن يستغفون يغفنه الله)) ﴿١﴾

”جو اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچاتا ہے، اللہ سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جو لوگوں کے مال سے بے پرواہ نہیں چاہتا ہے، اللہ سے بے پرواہنا دیتے ہیں۔“

((قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقمعه الله بما آتاه)) ﴿٢﴾

”وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے بقدر حاجت رزق ملا اور اس پر اللہ نے اسے قناعت کی دولت سے نواز دیا۔“

﴿١﴾ صحیح بخاری، کتاب الزکاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، رقم: ١٤٢٧۔

﴿٢﴾ صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب الكفاف والقناعة، رقم: ١٠٥٤ (٢٤٢٦)؛ سنن الترمذی: ٢٣٤٨؛ سنن ابن ماجہ: ٤١٣٨۔

دلربابیوں

گھر میں قرار پکڑنے والی، اپنے نگاہ کی حفاظت کرنے والی اور زیب وزینت کو مخفی رکھنے والی

اسی طرح اچھی بیوی اپنے اندر ان صفات کو بیدار کرتی ہے جن کا اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا ہے، یعنی اپنی نگاہوں کو اجنبیوں کی طرف اٹھانے سے بچانا، گھر میں رہنا اور بغیر کسی شرعی اور انہائی ضرورت کے گھر سے نکل کر گلیوں اور بازاروں کی طرف نہ جانا۔

اسی طرح ایسی عورت اپنی زیب وزینت کا اظہار ان لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتی، جن کے لیے ظاہر کرنا اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے اور اس کی شرعی حدود قائم کی ہیں۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَكْحَفْطُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيُضَرِّبُنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُونِهِنَ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَ إِلَّا لِيُعَوِّلْهُنَ أَوْ أَبَاءَهُنَ أَوْ أَبْنَاءَهُنَ أَوْ أَخْوَاهُنَ أَوْ نِسَاءَهُنَ أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانَهُنَ أَوْ الشَّيْعَيْنَ غَيْرُ أُولَيَ الْأَرْدَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الظَّفَلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوَالَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَتَوَبُّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَئِمَّةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ تَفَلَّعُونَ﴾

”مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو،

اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہرنہ کریں، سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا ایسے نوکرچاک مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں۔ اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کے حضور میں تو بہ کرو تاکہ نجات پا جاؤ۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَقُرْنَ فِي بَيْوَتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ جُنَّ تَبَرَّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ ۱

”اور اپنے گھر میں قرار سے رہو اور قدیمی جاہلیت کی طرح اپنے بنا و سنگھار کا اظہار مت کرو۔“

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

(لا تمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خير لهن) ۲

”اپنی عورتوں کو مساجد میں آنے سے مت روکو، البتہ ان کے گھران کے لیے بہتر ہیں۔“

اور ایک روایت میں ہے:

(ليخر جن وهن تفلات) ۳

”اگر تکلیں تو سادہ حالت میں تکلیں۔“

یعنی زیب و زینت اور بنا و سنگھار کے بغیر تکلیں۔ عطر و خوبصورت سے معطر ہو کر یا پرفیومز چھڑک کر نہ تکلیں، کہیں بیمار دل والا کوئی طمع نہ لگا بیٹھے، یا ان کی خوبصورت اور بنا و سنگھار کی وجہ سے

۱) الاحزاب: ۳۳۔ ۲) صحيح، سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی خروج النساء إلى المسجد، رقم: ۵۶۷ وصححه ابن خزیمه: ۱۶۸۴ والحاکم، ۲۰۹/۱۔

۳) استادہ حسن، سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی خروج النساء الى المسجد، رقم: ۵۶۵ وصححه ابن خزیمه: ۱۶۷۹ وابن حبان: ۳۲۷۔

مردوں کے خواہید جذبات بیدار نہ ہوں۔

”تفلہ“ کا معنی ہے گندی بدبوالی۔ یہ بنا و سکھار کے اہتمام اور حسن و جمال کے لیے تکلفات سے اجتناب کرنے سے کنایہ ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

((صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كاذناب البقر
يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات ممبلات
رؤوسهن كأسنمه البحت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن

ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا)) ❶

”جنہیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے اور وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، اور کچھ عورتیں ہوں گی جو بظاہر لباس پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، خود لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی، ان کے سرخیتی اوتنوں کی کوہاںوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی نہ جنت کی خوبیوں پا میں گی، جبکہ جنت کی خوبیاں تنے اتنے فاصلے سے محسوس ہو رہی ہوں گی۔“

اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((ان المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان
فقول: مارأني أحد إلا اعجيبة وأقرب ما تكون الى الله إذا

كانت في قعربتها)) ❷

”عورت پوشیدہ اور چھپا کے رکھنے والی چیز ہے، لیکن جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو

❶ صحیح مسلم، کتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات، رقم: ٥٥٨٢ - ٢١٢٨ ❷ استناده ضعیف، المعجم الكبير للطبراني، ٤٣١ / ٩، ابوالحلاں محمد بن سلیم جہور کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ تنبیہ: الاوسط ابن المنذر میں اس کی متناسب موجود ہے، لیکن وہ قادہ کی تدليس کی وجہ سے ضعیف ہے۔

شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے اور پھر یہ کہتی ہے: ”مجھے جو بھی دیکھے گا انگشت بدندال رہ جائے گا“ حالانکہ جب یہ اپنے گھر میں ہوتی ہے تو اللہ کے انتہائی قریب ہوتی ہے۔“

پس اچھی عورت مستقل اپنے گھر میں رہتی ہے، اپنی نگاہ و شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے رب کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی فرمانبردار رہتی ہے۔

دلربا بیوی

اپنے خاوند کی غیرت کو مدنظر رکھنے والی

نیک خاتون اپنے خاوند کے جذبات کا خیال رکھتی ہے اور اس کی غیرت کو مدنظر رکھتی ہے۔ بالخصوص اگر وہ اپنی بیوی پر سخت غیرت کھانے والا ہو تو بلا ضرورت اجنبیوں سے بات چیت نہیں کرتی، اور اگر کسی اجنبی سے بات کرنے پر سخت مجبور ہو جائے تو مختصر بات کرتی ہے، اتنی ہی گفتگو کرتی ہے جتنی ضرورت ہو، زیادہ نہیں کرتی، اور اس میں بھی ایسے الفاظ کا انتخاب کرتی ہے جن سے بات جلد واضح ہو جائے، لمبی نہ ہو اور نہ ہی ایک سے زیادہ معانی کا احتمال ہو، تاکہ برآگمان پیدا ہی نہ ہو اور فتنے کی جڑ کٹ جائے۔

اسی طرح اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر قدم نہ رکھے اور جب گھر سے نکلے تو اپنے لباس میں، چال ڈھال، گفتگو اور دوسروں سے تعلق میں اپنے پردے کا پورا خیال رکھے۔

اور اس پر فرض ہے کہ اولاد کے معاملے میں بھی اپنے خاوند کے دل میں غیرت کے جذبات کو مشتعل نہ کرے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب عورت مرد کے خیال کے مطابق بچوں کے لیے اہتمام میں مبالغہ سے کام لیتی ہے اور ان کے حقوق سے بڑھ کر انہیں وقت دیتی ہے، اور خاوند کے حقوق کو نظر انداز کر دیتی ہے، یا ان میں کوتا ہی بر تی ہے۔

اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اچھی اور نیک بیوی جو اپنی عمدہ عادات و صفات سے اپنے خاوند کو مسحور رکھتی ہے، وہ ایسا کام بھی نہیں کرتی جو جائز ہو، لیکن اس سے خاوند کی غیرت بھڑ کنے کا اندر یہ شہ ہو، مثلاً اس کے سامنے کسی اجنبی مرد کا ذکر کرنا، اور اس کے اخلاق کی یا اس کی کسی صفت کی تعریف کرنا۔ یہ اصلاً تو جائز ہے، لیکن اس سے خاوند کے دل میں غیرت کے جذبات برائی گھنٹہ ہو سکتے ہیں اس لیے ایمانہ کرنا بہتر ہے۔ جیسا کہ اسماء بنۃ ابو بکر رضی اللہ عنہما کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے وہ فرماتی ہیں:

”میں زبیر رضی اللہ عنہ (اپنے خاوند) کی اس زمین سے گھٹلیاں سر پر لاو کر لایا کرتی تھی جو اللہ کے نبی ﷺ نے انہیں عطا فرمائی تھی، یہ باغ دو تھائی فرش کے فاصلے پر تھا۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں آرہی تھی، گھٹلیاں میرے سر پر تھیں کہ رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی، آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ تھے، آپ ﷺ نے مجھے آواز دی اور اخ اخ کہہ کر اونٹ کو بٹھایا تاکہ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیں۔

فرماتی ہیں کہ مجھے شرم محسوس ہوئی اور تمہاری غیرت یاد آئی۔ اس پر حضرت زبیر کہنے لگے: ”اللہ کی قسم! تمہارا گھٹلیاں سر پر اٹھانا آپ کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ گراں تھا۔“ *

اس عظیم صحابیہ نے اپنے خاوند کے حق کو پہچانا، اس کی غیرت کا لحاظ رکھا اور اپنے سر پر گھٹلیاں اٹھانے کی مشقت برداشت کر لی اور آپ ﷺ کے پیچھے سوار نہ ہوئیں۔

دلربابیوی

زرخیز، بکثرت بچے جننے والی

یہ پاکیزہ رحم والی اور نیک اولاد کے لیے مبارک پیٹ والی ہوتی ہے، جو رحم کے معاملے میں خاوند کے لیے بخل سے کام نہیں لیتی۔ یہ اس وجہ سے اپنے آپ کو حمل سے باز نہیں رکھتی کہ اس سے اس کا خوبصورت سر اپا متاثر ہو گا، یا مال و دولت کی کمی ہے، یا صحبت میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ یا اس وجہ سے کہ یہ ابھی جوان ہے اور اپنے شباب کو حمل..... یار ضاعت..... یا بچے کی تربیت..... میں صالح نہیں کرنا چاہتی۔

بلکہ اچھی بیوی اپنے خاوند کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی مطیع رہتی ہے اور اپنے آپ پر یا اپنے خاوند پر حمل کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لیتی۔ عورت میں خیر و بھلانی کی صفات میں یہ شامل ہے کہ وہ محبت کرنے والی، بکثرت بچے پیدا کرنے والی، نیک، صالح اور زرخیز ہو۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرودی ہے کہ:

انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، اسے شمطاہ کی بیماری لگ گئی، آپ نے اسے طلاق دے دی اور فرمایا:

”اس عورت سے گھر میں پڑی ہوئی چٹائی بہتر ہے جو بچہ پیدا نہ کر سکتی ہو، خدا کی قسم! میں شہوت کی وجہ سے تم سے مقابلہ ہرگز نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرمار ہے تھے:

((تَزَوَّجُوا لِوَدَ الْوَلُودُ، فَإِنِّي مَكَاثِرُ بَكُّمُ الْأَمْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ﴿۱۲﴾

”پیار و محبت کرنے والی اور بکثرت بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، روز قیامت میں تھاری کثرت تعداد کی وجہ سے دوسرا امت تو پر فخر

کروں گا۔“

اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

میں نے شادی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کس سے شادی کی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ شوہر دیدہ سے، آپ نے فرمایا:

((مالك وللعداری ولعابها))

”کنواریوں سے شادی اور ان کے ساتھ کھیل کو دیں کیا رکاوٹ تھی؟“

نیز فرمایا:

((فهلا جاریہ تلاعبها وتلاعبك)) ﴿

”کسی چھوٹی عمر والی کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ تو اس کے ساتھ کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی۔“

ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے لیے کنواری کو پسند کیا، کیونکہ یہ ان کا پہلا نکاح تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر دیدہ عورتوں سے نکاح مکروہ ہے، بلکہ اگر ان میں سے کوئی پختہ دینداری والی، اعلیٰ و مضبوط اخلاق کی مالک مل جائے تو اس سے نکاح کر لینا چاہیے، لیکن کنواری کے ساتھ شادی سے جو کچھ اسے حاصل ہو سکتا ہے، وہ شوہر دیدہ سے نہیں، ترجیح کی یہی وجہ ہے۔

اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی کنواری سے شادی نہیں کی۔ اس لیے یہاں مقصود افضلیت اور بہتری کی طرف اشارہ کرنا ہے، کراہت یا تحریم بیان کرنا مطلوب نہیں ہے، یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ البتہ بانجھ عورت سے نکاح آپ نے ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ اس سے نسل منقطع ہو گی اور اولاد نہیں ملے گی۔

معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا:

* صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب تزویج الشیبات، رقم: ۵۰۷۹، ۵۰۸۰؛ صحیح مسلم: ۷۱۵ (۳۶۳۶، ۳۶۳۷، ۳۶۳۸، ۳۶۳۹)۔

”مجھے ایک اونچے حسب و نسب اور حسن و جمال والی عورت مل رہی ہے، لیکن وہ اولاد جننے کے قابل نہیں ہے۔ کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، وہ دوسری بار آیا تو بھی آپ نے اسے روک دیا تیری مرتبہ آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((تزووجو الودود الولد فانی مکاثر بكم الامم يوم القيمة)) ﴿
”ان عورتوں سے شادی کیا کرو جو سراپائے محبت و مودت ہوں اور بکثرت اولاد پیدا کر سکتی ہوں، مجھے روز قیامت دیگر امتوں پر تمہاری کثرت تعداد پر فخر ہو گا۔“

امام نسائی رضی اللہ عنہ نے اپنی سفن میں اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے:

((کراہیہ تزویج العقیم))
”لیکن بانجھ عورت سے شادی کا مکروہ ہونا۔“

میں کہتا ہوں:

ظاہر ہے کہ یہ کراحت تزییہ ہے، تحریکی نہیں۔ خاص طور پر اگر شادی شدہ آدمی کی ایسی عورت سے اس نیت سے شادی کرے کہ وہ پاک دامن رہے اور یہ اسے اس باب فتنے سے محفوظ رکھے۔

گویا نبی اکرم ﷺ نے اس شخص کو مذکورہ بانجھ عورت سے شادی سے اس لیے روکا تھا کہ اس کا گمان تھا کہ عورت کا حسن و جمال اور اس کا حسب و نسب اسے اولاد اور نسل کے بدالے میں مل رہا ہے، تو آپ نے واضح فرمایا کہ بنچے پیدا کرنے والی عورت، اگر حسب و نسب اور حسن و جمال والی نہ ہو تو بھی، یہ حسب و نسب والی خوبصورت مگر بانجھ عورت سے زیادہ برکت والی ہے۔

﴿ استناده صحيح ، سنن ابی داود ، کتاب النکاح ، باب النہی عن تزویج من لم يلد من النساء ، رقم: ۲۰۵۰ (الف) سنن النسائي: ۳۴۹۴ .﴾

دلربابیوی

بستر پر خاوند کی چاہت اور مراد کو پورا کرنے والی

بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال، اور بستر پر خاوند کے ساتھ خوبصورت طور اطوار سے، اسے اپنے پیار کے جادو میں جکڑ لے۔ دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے۔ زم گفتگو کرے اور اس کی رغبات اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے۔ بھی بھی اس کے بستر پر جانے سے مت رکے، اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیوں کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا اگناہ ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبْتَ، فَبَاتُ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا لِعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تَصْبِحُ))

”آدمی جب اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے، جس سے خاوند اس سے ناراض ہو کر رات گزارتا ہے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔“

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:
((ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاتُهُمْ إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ

بَاتٌ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانٌ وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِّمَانِ))

❶ صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب اذا قال احدكم: أمين والملائكة في السماء.....، رقم: ٣٢٣٧؛ صحیح مسلم: ١٤٣٦ (٣٥٤١)؛ سنن ابن داود: ٢١٤١۔

❷ استناده ضعیف، المعجمہ الکبیر للطبرانی، ١١/٤٤٩؛ ابن ماجہ: ٩٧١؛ ابن حبان: ١٧٥٧ عبیدہ بن اسود مدرس ہے اور سائع کی مراثت بیکن سے۔ تنبیہ: سنن الترمذی (٣٦٠ و سننہ حسن) میں اس مفہوم کی حدیث ہے، لیکن اس میں ((وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِّمَانِ)) کے الفاظ بیکن ہیں، البتہ ہمارے موضوع سے متعلقہ بات ((باتٌ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخْطٌ)) صحیح ثابت ہے۔

”تین قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے؛ ایسا امام ہے لوگ پسند نہ کرتے ہوں، وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اور دو بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں۔“

دلربابیوی

سمجھدار اور زیرک

اچھی بیوی اپنے خاوند کی طبیعت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور نظر رکھتی ہے کہ اسے کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے۔ کون سی چیز اس کے لیے قابل قبول ہے اور کس سے وہ اعراض کرتا اور منہ موزٹا ہے؟

جب وہ یہ سمجھ لیتی ہے تو ناپسندیدگی کے موقع پر صریح انداز میں بات کرنے کی بجائے اشارہ کنایہ سے بات کرتی ہے۔

اس بارے میں بہترین روایت حضرت ام سلمہ کی ہے، آپ فرماتی ہیں:

”میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اسی دوران میں حائضہ ہو گئی، چنانچہ میں کھک کر علیحدہ ہوئی اور حیض والے کپڑے اٹھا لیے، آپ ﷺ نے پوچھا:

((انفست؟))

”کیا حالتِ حیض میں ہو؟“

”میں نے کہا جی ہاں، آپ ﷺ نے مجھے بلا یا اور دوبارہ بستر پر اپنے ساتھ لٹا لیا۔“ *

یہ عقل مند اور زیرک خاتون امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ انہوں نے اسے بیان کرنے کے لیے اشارے پر اکتفا کیا، جسے تفصیل سے بیان کرنا ناگو اگر زرتا ہے۔

1 صاحیح بخاری، کتاب الحیض، باب من سُمِّ النفاس حِیضًا، رقم: ۲۹۸؛ صحیح مسلم: ۶۸۳ (۲۹۶)۔

دلربایوی

عقلمند و دانا

حکمت و دانائی، سمجھداری اور سچائی کو اپنا زیور بنالے۔ پہلے قول پھر بول۔ اپنے خاوند کو نصیحت کے لیے وہ طریقہ اختیار کر جو شریعت خداوندی اور سنت نبوی ﷺ کے موافق ہو۔ نصیحت پر اصرار نہ کر، نہ ہر وقت اسے نصیحت کرنے میں ہی لگی رہا کر، کیونکہ اس صورت میں تیرا مقصد اور تیری نیت اگر چہ درست ہو گی، لیکن خاوند پر تیرا یہ رو یہ کہاں نزरے گا، اس لیے خاوند کا خیال رکھا اور وقتاً فتناً نصیحت کیا کر۔

اگر وہ تجھ سے مشورہ طلب کرے تو ایسا مشورہ دے جو فائدہ مند ہو اور نفس پر گراں بھی نہ گزرے، نبی اکرم ﷺ بھی اکثر معاملات میں ازواج مطہرات سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ ؓ کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں جو یہ بات ثابت کرتے ہیں اور اس سے حضرت خدیجہ کی زبردست عقل، انتہائی داشمندی اور اعلیٰ مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت ام سلمہ کا واقعہ بھی اس کی مثال ہے، جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ﷺ کو اشارہ کیا کہ آپ خود نہیں، اپنی قربانی کو ذبح کریں اور حجاج کو بلا نہیں تاکہ وہ آپ کی جامات بنائے۔ اس پر تمام مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی اور کسی نے مخالفت نہ کی، اس طرح ام سلمہ ؓ کی رائے فتنہ کی سر کو بی اور اتفاق و اتحاد کا ذریعہ بن گئی۔

اس کے بعد اس بے وقوف اور احمق عورت جس قدر معاملہ سنوارتی ہے اتنا ہی یا اس سے بھی زیادہ بگاڑ دیتی ہے۔ اس کے خاوند کو اس میں نفرت انگیز چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے ایسی عورت سے اسے کوئی اولاد ملے تو وہ بھی ماں جیسی ہو، اس سے وہ عذاب در عذاب میں پھنس جائے گا۔

اللہ مد فرمائے، ایسی عورت کتنی بڑی آزمائش ہے۔

اس لیے اہل علم نے عقل مند خاتون سے شادی کو منتخب قرار دیا ہے اور بیوقوف سے شادی کو مکروہ کہا ہے، کیونکہ اس میں تکلیف کا زیادہ خدشہ ہے۔ ابن قدامہ مقدمی فرماتے ہیں:

”آدمی کو چاہیے کہ عقل مند خاتون کو منتخب کرے اور بیوقوف سے بچے، کیونکہ نکاح پوری زندگی ساتھ گزارنے کے لیے ہوتا ہے اور بیوقوف عورت کے ساتھ زندگی گزارنا خیر و بھلائی سے خالی ہے، ایسی عورت کے ساتھ زندگی خوشگوار نہیں گز رکتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حماقت اس کی اولاد میں بھی آجائے۔“

مزید فرماتے ہیں:

”بیوقوف عورت سے بچو، اس سے پیدا ہونے والی اولاد ضائع ہے اور اس کے ساتھ رہنا مصیبت ہے۔“ ﴿

دلربابیوی

اپنے گھر اور خاوند کو سنبھالنے والی

مذکورہ بالابیوی کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھاتی ہے، تکبر کرتے ہوئے اپنے خاوند اور اہل دعیال کی معروف طریقے سے خدمت کرنے سے انکار نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿فَالصِّلَاةُ قِنْتَنٌ حُفْظٌ لِلْعَيْبِ يَهَا حَفِظَ اللَّهُ﴾

(۴/ النساء: ۳۴)

”نیک خواتین اطاعت گزار ہوتی ہیں اور غیر میں بھی ان چیزوں کی نگرانی کرتی ہیں جن کی نگرانی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی ہے۔“

شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اللہ رب العزت کا فرمان: ﴿فَالصِّلَاةُ قِنْتَنٌ﴾ مطلقاً خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کو واجب قرار دے رہا ہے، اس میں خدمت، اس کے ساتھ سفر اور اپنے آپ کو اس کے پر درکرنا وغیرہ سب شامل ہیں۔*

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ألا كلكم راع و كلكم مستول عن رعيته)) ②

”تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔“

عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے اور اس سے ان تمام کے بارے میں سوال ہوگا۔

اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”میرے ساتھ حضرت زیر بن عٹ نے شادی کی۔ ان کی زمینوں میں ان کے

* مجمع الفتاویٰ، ۳۲/۲۶۰۔ ② صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب فضیلۃ الامام العادل، رقم: ۱۸۲۹ (۴۷۲۴)؛ سنن الترمذی: ۱۷۰۵۔

پاس کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہ تھی، صرف ایک گھوڑا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے گھوڑے کو چاراڑا لے کر تھی، آپ کے محنت و مشقت کے کام کیا کرتی، آپ کا سارا انتظام منجاناتی، اونٹی کے لیے گھلیاں پیسا کرتی، اسے چاراڑا لے کر آتی، آپ کے ڈول کو گھوڑوں سے بھر کر لاتی، آٹا گوندھتی اور سب کام کرتی۔ مجھے روٹی اچھی طرح سے نہیں پکانا آتی تھی، اس لیے کچھ انصاری لڑکیاں مجھے روٹی پکا دیا کرتیں۔ انصار کی عورتیں بڑی پر خلوص تھیں۔”

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہوی پر کس قسم کی خدمت واجب ہے: گھر کی صفائی سترھائی، کھانا پانی پہنچانا، روٹی پکانا، آٹا گوندھنا، غلاموں کے لیے کھانا تیار کرنا اور جانوروں کو ان کا کھانا دینا، یعنی انہیں چارا وغیرہ ڈالنا۔

اس سب کا کیا حکم ہے؟

بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ سب واجب نہیں ہے، اور یہ قول ضعیف ہے۔

اور بعض علماء کے زد دیکھ یہ خدمت واجب ہے اور یہی درست ہے۔

کیونکہ قرآن کے مطابق خاوند اپنی عورت کا آقا ہے۔ اور سنت رسول کے مطابق وہ اس کے پاس قیدی کی مانند ہے اور قیدی اور غلام پر خدمت کرنا واجب ہوتا ہے، نیز عرف بھی یہی کہتا ہے۔

پھر ان علماء میں سے بعض کا قول ہے کہ ٹھوڑی بہت خدمت واجب ہے، اور

بعض کا کہنا ہے کہ عرف کے مطابق خدمت واجب ہے اور یہی درست ہے۔

عورت پر فرض ہے کہ وہ خاوند کی معروف طریقے سے خدمت کرے، یعنی اس

طرح خدمت کہ جس طرح اس جیسی عورتیں اس جیسے خاوند کی کرتی ہیں۔

مختلف حالات میں یہ مختلف ہوتی ہے، دیہاتی عورت کی خدمت شہری عورت

کی خدمت کی طرح نہیں ہے، اسی طرح صحت مند اور تو ان اعورت کی خدمت
کمزور اعورت کی خدمت سے مختلف ہوگی۔” *

دلربابیوی

غصے کے وقت اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے والی

نیک اور صالح بیوی گالی گلوچ کے ذریعے اپنے خاوند کو تکلیف نہیں پہنچاتی، نہ اس کی توہین کرتی ہے اور نہ اس کے ساتھ ایسی گفتگو کرتی ہے جو اسے بڑی لگے، بلکہ اپنی زبان کو بدگوئی سے بچاتی ہے۔ اور جب تک پر سکون نہ ہو جائے اور اس کا اصل مزاج واپس نہ آجائے تب تک اپنے آپ پر گفتگو کو حرام کر لتی ہے۔

اور اگر وہ غصے کے وقت یہ الفاظ کہے ”غفران اللہ لک“ (اللہ آپ کو معاف کرے) یا انت عینیٰ و علی الرأس (آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر)، یا اس طرح کی کوئی محبت بھری بات تو اس کا خاوند کے دل پر گہرا اثر ہو گا۔ وہ بہت جلد پر سکون ہو جائے گا اور اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔

یہ چیز شیطانی مادہ کو ختم کر دے گی اور اس کی میاں بیوی کے درمیان فساد ڈالنے کی سازش ناکام بنا دے گی۔

اور نجح جا! بھرنج جا، ”بر الفظ“ زبان سے نکانے سے۔ اکثر عورتیں جب غصے میں ہوتی ہیں تو اس بات کا خیال نہیں کرتیں، فوراً بر الفظ بول دیتی ہیں، یعنی کہہ اٹھتی ہیں ”طلقني“ (مجھے طلاق دے دو)۔

تجھے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا کرگز رے، اور اگر وہ غصے میں ایسا نہ بھی کرے تو بھی تجھے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا مو اخذہ کر سکتا ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((أَيُّمَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا))

(رائحة الجنۃ)

استنادہ صحیح، سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب فی الخلع، رقم: ۲۲۲۶؛ سنن الترمذی: ۱۱۸۷؛ سنن ابن ماجہ: ۲۰۵۵ وصححہ ابن حبان: ۱۳۲۰ والحاکم، ۲۰۰ / ۲۔

”جو عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔“

یہ سخت وعید اس گناہ کی شناخت اور عین کا پتا دیتی ہے۔

پھر یہ عورت شاید اس بات سے واقف نہیں ہے کہ خاوند کے غضب کی صورت میں اس پر کیا بجلیاں نٹ کتی ہیں۔ ہو سکتا ہے خاوند ایسا لفظ بول دے جس سے طلاق واقع ہو جائے، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تیسری طلاق ہو جس سے قطعی جدائی ہو جائے گی، گھر تباہ و بر باد ہو گا اور اولاد ضائع ہو گی اور..... اور.....

اس لیے اچھی عورت کو جب غصہ آتا ہے تو وہ اسے پی جاتی ہے، اپنے رب کو یاد کرتی ہے، اس کی طرف رجوع کرتی ہے اور اس کے او اس کے خاوند کے درمیان جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہواں کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے۔

لیکن! اگر عورت کو اندیشہ ہو کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہی تو اس کا دین فتنے میں پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔

جیبہ بنت ہبل الانصاریؓ سے روایت ہے کہ وہ ثابت بن قیس بن شماں کی زوجیت میں تھیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ صبح کے وقت باہر تشریف لائے تو آپ نے جیبہ بنت ہبل کا نامہ میرے میں اپنے دروازے پر پایا۔ آپ نے کہا: ”یکون ہے؟“ اس نے جواب دیا: ”یار رسول اللہ! میں جیبہ بنت ہبل ہوں“

آپ نے فرمایا: ”کیا بات ہے؟“

اس نے جواب دیا: ”میں ثابت بن قیس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔“

جب اس کے خاوند ثابت بن قیس آئے تو آپ نے ان سے کہا:

”یہ جیبہ بنت ہبل ہے، اس نے جو اللہ نے چاہا وہ مجھے بتالایا ہے۔“

جیبہ کہنے لگی: ”اے اللہ کے رسول! اس نے جو کچھ مجھے دیا تھا وہ میرے پاس موجود ہے۔“

آپ نے ثابت بن قیس سے کہا: وہ سب اس سے لے لو، چنانچہ انہوں نے لے لیا اور جیبیا پنے گھر چلی گئیں۔ *

لیکن یہ کام خوب جائی پر کھ، آزمائش، تجربہ اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد ہونا چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ جس طرح بعض عورتیں جب اپنے خاوند سے ناراض ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے خطرہ ہے کہ یہ میرے دین میں فتنے کا سبب بنے گا اور جب خاوند میں ایسی چیز دیکھتی ہیں جو انہیں خوش کر دے تو اس کی تعریف و شاء میں زمین آسمان کے قلا بے ملائے لگتی ہیں۔

طلاق کا مطالبہ کرنا کوئی عام سادہ ہی بات نہیں ہے۔ نہ اولاد کو بھیر دینا اور خاندان کو تباہ و بر باد کرنا ہی کوئی آسان کام ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ مفاسد و مصائب پر خوب اچھی طرح غور کر لیں، طلاق کے مطالبے میں جلد بازی سے کام نہ لیں اور نہ بلا وجہ شوہروں کو ہی طلاق پر ابھاریں اور انہیں مجبور کر کے اسے کھیل تماشہ بنائیں۔

* استنادہ صحيح، سنن ابنی داود، کتاب الطلاق، باب فی الخلع، رقم: ۲۲۲۷؛ سنن النسائی: ۳۴۹۲۔

چند مضامین جو مجھے پسند آئے

میل جول کے راز اور میاں یوی کی نفیات

پہلا راز ☆

مرد یہ پسند کرتا ہے کہ عملی کام کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوائے، جبکہ عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے خاوند پر اعتماد کر کے اور اپنے جذبات کے اظہار کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوائے۔

قاعدہ:

کسی چیز کا جزو اصل کی طرف مائل ہوتا ہے، آدم کی اصل مٹی ہے اور حوا آدم کا جزو ہے۔

دراستہ (Study):

امریکہ کے ایک بینک میں مینیجری کے دوران ۵۰۰ عورتوں سے میری بات ہوئی، ان سے پوچھا گیا کہ جب تم اپنے کام میں سکون اور ٹھہراؤ حاصل کرنا چاہتی ہو تو کس سے مشورہ کرتی ہو؟

نتیجہ: ۶۵ فیصد عورتوں نے کہا کہ ہم اپنے خاوندوں سے مشورہ کرتی ہیں۔

دوسرے راز ☆

آدمی اپنے دماغ کے باہمیں پہلو کو استعمال کرتا ہے اور عورت دامیں پہلو کو۔

معلومات:

باہمیں پہلو کی صفات: اعداد اور هندسے، تجزیہ، ترتیب، فیصلہ کرنا، منصوبہ بنانا۔

دامیں پہلو کی صفات: جذبات، خیال، دور کے خواب، انوکھا پن، نظم و نق، اچھی آواز اور ذوق۔

دراستہ (Study):

کویت میں ۵۰ سے زائد مردوں اور عورتوں سے میری بات ہوئی کہ عورت ایک دن میں کتنی باتیں کرتی ہے اور مرد کتنی؟

نتیجہ: عورت ۱۸ ہزار کلمات۔
مرد ۸ ہزار کلمات۔

☆ تمیز اراز

آدمی صورتِ حال کو مجموعی اور اجتماعی طور پر دیکھتا ہے، جبکہ عورت تفصیلات میں جاتی ہے، یعنی عورت تفاصیل کو پسند کرتی ہے اور مرد کے لیے سرسری نظر کافی ہوتی ہے۔

معلومات:

آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ گھر کے اندر کیا کچھ ہے۔ اسے اسی قدر فکر ہوتی ہے کہ گھر کے مستقبل کو کیسے محفوظ کرے۔

☆ چوتھا راز

مرد کو جذبات مجمتع کرنے اور ان کے اظہار کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔

معلومات:

جدبیات دماغ کی دائیں جانب ہوتے ہیں، اور اس جانب کو مرد کی بُنْسَبَت عورت زیادہ استعمال کرتی ہے۔

آدمی اپنے جذبات کا اظہار اپنے عمل سے کرتا ہے، جبکہ عورت باتوں سے کرتی ہے۔

☆ پانچواں راز

مرد مشکلات کے حل کے لیے غور و فکر کرنے کو تیار ہوتا ہے، جبکہ عورت کام کا ج کرنے کو تیار ہوتی ہے۔

معلومات:

مرد و عورت کا تعلق ایک دوسرے پر فضیلت والا تعلق نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا تعلق ہے۔

خاوند کو چاہیے کہ بیوی کی گفتگو میں امتیاز کرے؛ دیکھئے کہ کیا عورت کسی مسئلہ کے حل کے لیے بات کر رہی ہے یا وہ فقط خبر دے رہی ہے، اسے صرف اپنی بات سنانا ہے اور اسے

بات سننے والا چاہیے۔

☆ چھٹا راز

مرد و عورت کے جسم اور اعضا کا فطری فرق دونوں پر اپنا ذاتی اثر رکھتا ہے۔ عورت کے متاثر ہونے کے اسباب: ماہواری، حالتِ نفاس، حمل۔

مرد کے متاثر ہونے کے اسباب: کام، تھکاؤٹ اور گھر پر اس کا اثر۔

میاں بیوی کے آپس کے میل جوں میں تناقض

اکثر اوقات ہر انسان، صنف ثانی اگر جبی ہو تو اس کے احساسات و جذبات کا بہت خیال رکھتا ہے، تاکہ اس کا اعتماد، احترام اور اس کی نگاہوں میں عزت حاصل کر سکے۔

لیکن ہم ایمیکیٹس (اخلاقیات) کے اصول و قواعد کو صرف دوسروں کے لیے ہی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کے لیے اور رشتہ داروں میں سے جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے اس کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟

عام طور پر ہم اپنے کسی انتہائی قربی عزیز کے لیے اس بات کی پرواہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آرہے ہیں۔

ہم صرف یہی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ دوسروں (اجنبیوں) کے جذبات مجروح نہ ہوں؟ ان کا ہم بہت لحاظ رکھتے ہیں اور اس بات کی ذرا پرواہیں کرتے کہ اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کبھی قصد اور کبھی غیر ارادی طور پر اس کے جذبات مجروح کرتے ہیں اور پھر مذدرت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے؟

کیا اس لیے کہ ہم نے فرض کر کھا ہے کہ وہ خود ہی سمجھ جائے گا اور چشم پوشی سے کام لے گا؟ یا ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اخلاقیات کے اصول صرف اجنبیوں کے ساتھ میل جوں میں استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور ظلم و زیادتی، ترشی وختی اور بد ذاتی رشتہ داروں کے لیے ہے؟

شادی کی خوشی اور سعادت کا حصول ایک دوسرے کے احترام اور فریق ثانی کے احساسات کے لحاظ کا متفاضی ہے۔

اس لیے میاں بیوی میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ عالی زندگی کے آغاز میں ہی کچھ اصول و قواعد پر اتفاق کر لیں اور اسے ایک دستاویز کی صورت میں لکھ لیں اور ان تمام چیزوں پر متفق ہو جائیں جن سے زندگی تروتازہ رہے۔

یہ سب اس لیے ہے کہ ہر شریک حیات اپنے ساتھی کا احترام کرے اور اس کی قدر و قیمت پہچانے، اور جوان میں سے کسی اصول کی خلاف ورزی کرے، اس کے لیے سزا اور تادیب بھی ہونی چاہیے۔ مثلاً ایک دودن کے لیے بول چال بند کرنا (یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزا انداز میں دی جائے کہ مخالفت کرنے والے کو گھر بیلو کاموں میں سے کوئی زائد کام کرنا پڑے۔ یا دوسرے کی بجائے اسے بچوں کو پڑھانا پڑے) یا دوسرے کے حق میں کوتاہی کرنے والے کا اس سے مغدرت کرنا، یا اسے راضی کرنے کے لیے جرمانے کے طور پر کچھ رقم دینا وغیرہ۔ یہ رقم ایک صندوق میں ڈال دی جائے اور مہینے کے اختتام پر صندوق کو خالی کر لیا جائے اور اس میں موجود رقم کے ذریعے سے میاں بیوی کہیں باہر جا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔

کچھ اخلاقی قواعد، جنہیں بعض لوگ اپنیکیس کہتے ہیں:

- ☆ کرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لئی چاہیے۔
- ☆ گھریا کرے میں داخل ہونے یا گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سلام کہنا۔
- ☆ کرے سے نکلتے ہوئے کرے والوں سے پوچھنا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟
- ☆ اگر ہم اپنے ساتھی کی چیز کو والٹ پلٹ کریں یا اس کی جگہ سے بلا میں تو دوبارہ اسے پہلی حالت میں رکھیں۔
- ☆ کسی کے خط، کاغذ یا تحریر کو اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھیں۔
- ☆ ایک سے دوسرے کے حق میں کوتاہی ہو تو بغیر شرمندگی کے اس سے مغدرت کرے۔
- ☆ غلطی کرنے والا معافی مانگے تو دوسرا اسے مزید شرمندہ کیے بغیر معاف کر دے۔
- ☆ گفتگو پر سکون انداز میں ہونی چاہیے، گالی گلوچ یا دوسرے کو واذیت دینے والے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔
- ☆ دوسرے کی خواہشات کا احترام کرنا اور خیال رکھنا چاہیے، اس کے مرتبہ کو کم نہیں کرنا چاہیے۔
- ☆ ایک فریق اگر عصیت اور ہست وھری سے کام لے تو دوسرا جواباً وہی رو یا اختیار نہ کرے۔

- ☆ اختلاف یا بحث کے وقت مشکلات اور مسائل کھڑے کرنے اور گڑے مردے اکھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
- ☆ دونوں کو کام تقسیم کر لینا چاہیے اور ہر فریق اپنا متعلقہ کام خود اپنے ذمہ لے۔
- ☆ معاملہ کتنا ہی سنگین ہو یا کتنی ہی بڑی غلطی ہو جائے، جھوٹ سے بچا جائے۔
- ☆ جھوٹ غلطیوں کی بنیاد ہے۔ حق بات کہہ دو خواہ کڑوی ہو، لیکن ایسے نرم اور لطیف انداز میں کہ دوسرے کو اذیت نہ ہو۔
- ☆ قدرت کے باوجود درگز رکرنا اور چشم پوشی سے کام لینا۔
- ☆ کسی کو بھلانی اور خیرخواہی کی ضرورت ہو تو پیار کے ساتھ، بڑائی جتنا ہے بغیر اس کی خیرخواہی کرنا۔
- ☆ ایک فریق خوش ہو تو دوسرا بھی خوش ہو جائے، ایک رورہا ہو تو دوسرا بھی غمزدہ ہو جائے۔
- ☆ کسی ایک کی خوشی کا موقع آئے تو بغیر کسی عذر کے سب اس کی خوشی میں شریک ہوں۔
- ☆ کوئی ایک اہم کام کرنے سے عاجز آجائے اور مدد کی ضرورت محسوس کرے تو بلا تاخیر سب اس کی مدد کریں۔
- ☆ قدرت و طاقت کے وقت چشم پوشی اور درگز رے کام لینا معزز لوگوں کا شیوه ہے۔
- ☆ آپس میں کام تقسیم کیا جائے اور ہر ایک اپنا کام دوسرے کے مطالبہ کے بغیر خود بخود کرے۔
- ☆ ایک جب لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہو تو دوسرا اسے جھٹلاعے نہیں۔ اسی طرح اگر وہ کوئی ایسا واقعہ بیان کر رہا ہو جس میں ہم بھی موجود ہوں اور وہ واقعہ بیان کرنے میں کمی زیادتی کر جائے تو ہم اسے اس کی مرضی کے مطابق واقعہ بیان کرنے دیں۔
- ☆ ہر ایک اپنے شریک حیات کے لیے وہ سب پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اسے راحت پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔
- ☆ خنتیوں پر صبر کرنا عبادت ہے، اور ہمیشہ اللہ کے شکر گزار ہنا واجب ہے۔
- ☆ نماز دین کا ستون ہے اور اللہ پر اعتماد اور یقین کامیابی کی بنیاد ہے۔

☆ ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو محبت بھرے دل کے ساتھ پکارے اور بات چیت، گپ شپ اور فنی مزاج میں ظاہر آیا در پردہ تکلف سے کام نہ لے۔
 جو چیز پانی کے اوپر ہوتی ہے، پانی اسے ڈبودیتا ہے اور وہ گھر جو سیالب کے رستے میں تغیر کیا گیا ہو، سیالب اسے منہدم کرتا ہے۔ وہ خاندان جس کی بنیاد اللہ کے تقویٰ اور اس کی اطاعت پر ہو، سخت سے سخت آندھیاں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔

میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی کیسے جنم لیتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟

بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں اور اپنی بیویوں کے سامنے انکارو یہ انتہائی روکھا اور خشک ہوتا ہے۔ سب بیویاں، سوائے ان کے جن پر اللہ نے اپنی رحمت فرمائی، ہر انسان کو سمجھ لیں گی، اپنے خاوند کو نہیں سمجھ پائیں گی۔
ایک سادہ کسی مثال لیتے ہیں:

آپ ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو کے دوران میں اکتا ہست اور بوریت محسوس کرتی ہیں، یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا خاوند بہت بور ہو چکا ہے اور آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جب کہ اس کے عکس جب وہ دوسری عورتوں سے بات کرتا ہے تو آپ کو اس کی گفتگو بڑی خوبصورت اور عمدہ دکھائی دیتی ہے.....؟

یہ مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے اور ہمارے معاشرے میں دیوقامت بن چکا ہے۔ میں کسی طبیب یا فلسفی کی طرح اس پر گفتگو نہیں کروں گا، نہ کسی کتاب سے پڑھے ہوئے کسی مقالہ کی تعریح کروں گا، بلکہ اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔
اس مسئلے کا بنیادی سبب ”نفسیاتی اثر“ ہے۔
جی ہاں! نفسیاتی اثر یا نفسیاتی محرك۔

جب آپ اپنے خاوند کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزار لیتی ہیں تو آپ کو اس سے اکتا ہست اور بوریت محسوس ہونے لگتی ہے، آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے علاوہ ہر ایک ساتھ وہ انتہائی عمدہ انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کا خاوند آپ کے ساتھ ایک پھر کی طرح ہے، جبکہ لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اور رو یہ بڑا خوبصورت، رنگین، ملکون، رومانٹک، عمدہ اور پرکشش ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ بات چیت کے وقت وہ پھر بن جاتا ہے، اس کی گفتگو کسی قابل نہیں ہوتی۔

اسی طرح فلاں عورت اپنے خاوند کو پکارتی ہے، اس کے سامنے اپنے دکھڑے بھی بیان کرتی ہے، لیکن آپ کو اس کے خاوند کے جواب میں بے حصی نظر آتی ہے، اس کا رِ عمل قابلِ اعتنا نہیں ہوتا، جبکہ اس آدمی کی بہن بھی اس کے سامنے اپنے دکھ بیان کرتی ہے اور جب اس کا خاوند اپنی بہن کو تسلی دیتا ہے اور مسائل کے حل میں اس کی معاونت کرتا ہے تو اس عورت کو اپنے خاوند کی بہن سے غیرت محسوس ہوتی ہے۔

نفیاتی محرك ان مسائل کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے...
کیسے ؟؟

جب میں نفیاتی اور اندر و فی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہوں کہ مجھے میری بیوی میرے معاملات پس پشت ذاتی ہی نظر آئے گی، تو وہ میرا خیال رکھنے اور میری مدد کرنے کی کتنی بھی کوشش کر لے میں اسے کبھی سمجھ نہیں پاؤں گا، اور وہ مجھے میرے حقوق میں کوتا ہی کرتی ہی نظر آئے گی، جبکہ عملاً اگر کوئی اور عورت اس کام کا ایک چھوٹائی حصہ سرانجام دے جو آپ کی بیوی روزانہ آپ کے لیے کرتی ہے، تو آپ کو محسوس ہو گا کہ یہ عورت آپ کا بہت خیال رکھتی ہے اور آپ کی بیوی کو آپ کے معاملات کی کوئی پرواہی نہیں ہے !!!

اصل میں آپ نفیاتی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ آپ نے اپنی بیوی کے کسی کام کو قبول نہیں کرنا، اور آپ کے دل میں یہ بات راح ہو چکی ہے کہ آپ کی بیوی جو بھی کام کرے گی ضرور اس میں کوئی نہ کوئی اس کی اپنی مصلحت موجود ہو گی، اس لیے وہ غلط ہی رہے گی۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے ہر حکم کو پورا کر دے تب بھی آپ کی نگاہوں میں وہ گناہ گار ہو گی، کیونکہ کسی نہ کسی نقص کو آپ پکڑتی لیں گے، خواہ وہ کتنا ہی حقیر اور غیر اہم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ نقص آپ کو فوراً نظر آجائے گا اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی نفیات کو مطمئن کر لیں گے جو یہی چاہتی ہوں گی، یعنی نفیاتی طور پر آپ کو اس وقت بڑا سکون اور راحت ملے گی جب آپ اپنی بیوی کو کہیں گے یاد کیجیں گے کہ وہ آپ کے حق میں کوتا ہی کر رہی ہے۔

ایک اور مثال۔

جب آپ شروع شروع میں کسی ایسی دو شیزہ سے بات کرتے ہیں جس سے آپ کو

بڑی محبت ہے تو اس کے ایک ایک بول کو آپ بڑے غور سے سنیں گے۔ آپ کو محسوس ہو گا کہ یہ تو سراپاے غزل ہے، محبت کا پیکر ہے اور ہماری آپس کی زندگی ہمیشہ پر سعادت اور خوشگوار رہے گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تعلق میں خرابی آ جاتی ہے، اور بعض خاص اسباب کی وجہ سے بعض مسائل اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، طبعی طور پر زندگی میں ایسا ہوتا ہی ہے، مسائل پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی کلمات اور بول جو آپ کو ایسا جادو محسوس ہوتے تھے جو آپ کو بادلوں میں لے جاتے، وہ اب اتنے عمدہ نہیں رہے، بلکہ وہ سب اب بوریت کا سبب اور اعصاب شکن، تھکا دینے والی روٹین بن چکا ہے۔ میں کبھی محسوس کر سکتی ہوں کہ میرا خاوند میرا غم خوار ہے، میرے معاملات سمجھتا ہے، میرے مسائل پر صبر کرتا ہے اور میری بات غور سے سنتا ہے؟ جبکہ خود میں نفسیاتی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں نے اپنے آپ کو منفی طور پر تیار کر رکھا ہے؟

یہ بے چارہ مسکین مجھے کیسے راضی کر سکتا ہے اور مجھے اس محبت کا احساس کیونکر دلا سکتا ہے جو محبت یہ میرے ساتھ کر رہا ہے اور مجھے دے رہا ہے؟

اگر وہ میرے ساتھ ہنسی مذاق کرے گا تاکہ طرفین میں کشیدگی کم ہو اور غم خواری کے

ساتھ ساتھ کچھ فرحت پیدا ہو جائے تو میں کہوں گی کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے !!!

اگر وہ ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے حل پیش کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ دوبارہ ان کا سامنا نہ کرنا پڑے تو میں کہوں گی کہ یہ مجھ سے اور میرے مسائل سے اکتا گیا ہے۔ اس لیے

دوبارہ اس قصہ کو کھولنے سے روک رہا ہے !!!

اگر وہ مجھ سے کہے کہا سے بھولنے کی کوشش کرو تو میں کہوں گی کہ یہ میرے غنوں سے کئی

کتر ارہا ہے اور میری پریشانیاں سننا نہیں چاہتا !!!

اگر وہ میرے ساتھ بات کرے گا اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے یہ احساس دلانے کے میں غلطی پر ہوں، تاکہ یہ جھگڑے ختم ہوں اور دوبارہ ان کا سامنا نہ کرنا

پڑے، تو میں کہوں گی کہ یہ مجھے یقوقف سمجھتا ہے !!! میرے بارے میں اس کی سوچ صحیح نہیں ہے، یہ مجھے بچی سمجھتا ہے جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی

میں اس کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ جب کہ میں اس کی بات سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ ہر چیز کو منفی طور پر لیتی ہوں۔ نہ صرف اس کی کوشش میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی، بلکہ جیسے مقولہ ہے کہ گیلی مٹی کو مزید گیلا کر رہی ہوں (جلتی میں تیل ڈال رہی ہوں)۔

یہیں سے بکثرت میان بیوی کے درمیان یا منسوب جوڑے کے درمیان حالات بگڑنے لگتے ہیں اور آخر کار تعلق نوٹ جاتا ہے، یا تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں یا پھر ناخوشگوار زندگی جیسے تیسے گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

نفیاتی حالت کی اصلاح اور فریق ثانی کو اسے قبول کرنے کے لیے تیار کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے جو آپ اپنے آپ کو یا اپنے ساتھی کو پیش کر سکتے ہیں۔

یہی ایسی چیز ہے جو تو اپنے خاوند کو تعلقات میں بہتری لانے کے لیے پیش کر سکتی ہے۔ اپنے آپ کی تیاری، جو عام طور پر لگی بندھی روٹن، مصروفیات کی کثرت اور چھوٹی چھوٹی چیزوں اور معمولی معاملات کو نظر اندازنا کرنے کی وجہ سے ماند پڑتے پڑتے ختم ہو جاتی ہے۔

نفیات کا بگاڑ، جو کہ فریق ثانی کا احساس نہ کرنے، اس کی مراد نہ سمجھنے اور احساس و شعور میں انانیت پیدا کرنے کے سبب نمودار ہوتا ہے، یعنی ہر کوئی صرف اپنا احساس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اس کا احساس کرتا ہے۔

میان بیوی کے لیے یہ نفیات کی تیاری سیدھا اور واحد حل ہے۔

جب تو یہ سوچے گی کہ تمہارا خاوند جو تم چاہتی ہو اسے نہیں سمجھتا یا تمہارا احساس و خیال نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ تو بھی اس کی مراد نہیں سمجھ رہی، نہ اس کی مدد کر رہی ہے نہ اس کا احساس کر رہی ہے۔

اس طرح ہر فریق کی انانیت دوسرے کے ساتھ بندھی رہے گی۔ جس سے خلا بڑھتا جائے گا اور ہر ایک اسی انتظار میں رہے گا کہ دوسرا آغاز کرے اور جذبات کو سمجھے۔ ہر ایک دوسرے کے متعلق یہی کہے گا کہ وہ اسے نہیں سمجھتا، اس کے احساسات کا لحاظ نہیں کرتا۔ اس طرح مشکل جوں کی توں برقرار رہی نہیں رہے گی۔ بلکہ یادداشت میں راخ ہو جائے گی۔ چنانچہ تم اور تمہارا خاوند حل کے لیے اپنے آپ کو نفیاتی طور پر تیار نہیں کرو گے۔ ایک دوسرے

کی طرف تھی ووچ سے دیکھتے رہو گے حتیٰ کہ تم دنلوں کی طرف سے غلطیوں کے اعتراض اور صلح کے بعد بھی یہ صورت حال باقی رہے گی، کیونکہ اس قسم کے مسائل کی جزیں دل میں پیوسٹ ہو جاتی ہیں، جن کا اکھماہ ہی ختم دنلوں کے درمیان متنی نفایات کے پیدا کردہ حالات کی صورت میں ہوتا رہتا ہے۔

یہ جو ہم نفایاتی لحاظ سے متنی انداز میں تیار ہو چکے ہیں اس تیاری کو عام زندگی میں، اور ہر چیز میں، جدیدیت اور نیابی پیدا کر کے توڑنا پڑے گا۔

متنی انداز اور اس کی تجدید، محبت بھری یا تمیں اور اس کی تجدید، جنسی تعلقات اور ان کی تجدید۔

اپنی رفیقدیت کے ساتھ کچھ جملہ قدی کریں، ماس دوران آبیں میں ہموم و تکرات کا بتاولہ کریں اور اپنی زندگی کو تنے انداز سے جیسی تو اسے اپنی بیوی ہاتا کر دکھ، وہ تجھے اپنادوست ہٹا کر رکھ کر اور خوشی کے موافق پر تمہیں اپنے ساتھ رکھ۔

اور اس شریک حیات! تو اپنے غنوں کو اس کے سامنے عیان کر، اس کے لیے نیا بستر بچھا، نئے نئے کھانے پیش کر، مگر کوئے انداز سے ترتیب دے، مگر کو مرتب رکھ، اسے دعوت دے کہ کوئی نئی چیز پیش کرے، خواہ اس کا تحمل بیاس سے ہو۔ یا مجلس سے یا گفتگو سے یا

یہ نفایاتی تیاری ہے ملے دعوت دے کر وہ ثابت طور پر تیار ہو۔ اس سے تمہارے اور تمہارے خاوند کے درمیان محبت میں اضافہ ہو گا۔

اپنے خاوند کو سمجھنے کی کوشش کر، اس کے ہر مطالبہ پر بیک کہہ، اس کے لیے تو جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر، اسے احساس دلا کر وہ بہت طاقت ور ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اسے احساس دلا کر تیری زندگی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ہی خدا اس بات کو یاد کرتی رہ کے جب وہ ہمیں یا تمہارے گمراہ یا تمام نہایاں لے کر آیا تھا تو تم دنلوں میں محبت کے کیسے احساسات تھے۔ اسے وہ خوبصورت لایم یا دلا جو تم نے اکٹھے گزارے ہوں۔ اپنی زندگی میں کمی بندھی روشنی کو توڑ اور اسے احساس دلا کر تو مکمل طور پر ایک نئی لڑکی ہے، جو لمحہ بہ

لحجہ دیدیت کی حالت ہے۔

اس کے ساتھ تو ایسے اندازے گفتگو کر جیسے تو پنجی ہے، مور جیسے وہ تیراباپ ہے اسے احساس دلا دے کر تو انیت کی بیاس لورچس کیسی ہوتی ہے؟ اسے یہ باور کرواد کر تو اس کے ساتھ ہر حال میں خوش ہے، مغلدتی میں بھی، خوش حالی میں بھی، خوشیوں میں بھی اسی کی خوشی پر خوشی کا اطمینان کرواد دنیا کے غنوں سے نجات کے لیے اس کے لیے مغلدلا میں جا۔ اپنے دل کو اس کا، اس کی طلب پر لیک کرنے کا، ملوار اس کی خوشی و معاشرت کا گرد و بنا لے، جو اسے پسند ہے اپنی سوجوں کا محور اسی کو بنالے لوار جس چیز کو وہ ناپسند کرے اسے ناپسند کر۔ ہر چھوٹے اور بڑے معاملہ میں اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے یہ احساس دلا کر دہ کر۔ لحیہ دیدیت کا حامل ہے اور اس کی محبت تیری زندگی ہے اس کی تعلیموں سے درگزر کر۔ اسے یہ احساس دلا کر اس دنیا میں تیری زندگی میں صرف دہی ہے اور کسی دھرے کو اپنے درمیان مت داخل ہونے دے۔ جب تو اس کے لیے انکی بیوی میں جائے گی تو وہ تمہارے لیے دیساخوند میں جائے گا جیسا تم چاہو گی۔ وہ تمہاری اگاثت کی انکوٹھی میں جائے گا، جیسا کہ کہا جاتا ہے:

”تو اس کی لوٹڑی میں جاؤ وہ تیر اغلام میں جائے گا“

لیکن جھاط رہا، جو بھی اس سے کہنا ہو سوچ کر کہنا، اچھے الملوک میں کہنا اور پہلے سوچ کر کہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں سادہ، یقوق فیا پاگل سمجھنے لگے، کیونکہ اکثر لوگ جدیدیت کے عادی نہیں ہوتے اس لیے آہستہ آہستہ یہ کام کرنا اور بڑے خوبصورت اور عمده انداز میں اسے یہ تبدیلی قول کرنے کا کہتا۔

میاں بیوی کے آپس میں سلوک کے لیے صحیح خاوند:

☆ بیوی یا شریک حیات کے افہام و تفہیم اور ہم آہنگی پر منی عمرہ انتساب کے بعد تفصیل و تصریح میاں بیوی کے درمیان بنیادی ذریعہ ہے جس سے یہ افہام و تفہیم برقرار رہتی ہے اس لیے جب کبھی تمہاری زندگی میں ٹکراؤ آئے، یعنی کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ

بات واضح اور صریح انداز میں کرنا اور اس مسئلے میں اپنی والدہ یا اپنی بیوی کی والدہ کو ہرگز نہ آنے دینا۔

☆ ہمیشہ کوشش کرنا کہ تمہارے اپنی والدہ کے ساتھ تعلق اور بیوی کے ساتھ تعلق میں فرق رہے، تیری زندگی میں ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے مختلف مقام ہونا چاہیے۔ ہر ایک کا الگ الگ طور پر احترام بنیادی اور مطلوب چیز ہے۔ اسے خلط ملط کرنے سے بچنا، وگرنہ ان کے درمیان تعلقات میں توازن خراب ہو جائے گا۔

بیوی:

☆ وہ بیوی جو پائیدار عائلی زندگی گزارنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ سطحی سوچ سے بچے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے شادی کے بعد زندگی جہنم بن سکتی ہے۔ اپنا موازنہ خاوند کی ماں کے ساتھ بھی نہ کرے اور نہ اسے اپنے مقابلہ کی عورت تصور کرے۔

☆ بیوی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خاوند کے بھی ماں باپ ہیں جس طرح اس کے اپنے بھی فرض ہے کہ وہ اپنی ساس سے محبت کرے، اس کا احترام کرے، کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت کو اپنے خاوند سے محبت ہے اور اس کے دل میں خاوند کا احترام موجود ہے۔

یہاں پانچ صحیتیں بیان کی جاتی ہیں جو میان بیوی کے میں جوں میں بہت اہم ہیں:

۱۔ اپنے آپ پر کنٹروں۔ شریک حیات کے ساتھ حسن معاشرت کا یہ بہترین طریقہ ہے کبھی مسئلے کے آغاز میں ہی اپنا دفاع اور اپنی براءت کا تمہارہ مت کرنا۔

۲۔ اپنے خاوند کو اطمینان دلا کہ مسئلہ ضرور حل ہو گا اور تنقید کی بات نرم انداز میں کر۔ اکثر اوقات اس کا غصہ تیری وجہ سے نہیں بلکہ تیرے موقف کی وجہ سے ہوتا ہے۔

۳۔ بڑی پیشہ وار انہ مہارت کے ساتھ مشکل کے حل کو تلاش کر اور جلد بازی کو لگام دیے رکھ، ایسا حل پیش کر جو دونوں کے لیے قابل قبول اور مناسب ہو۔

۴۔ مسئلے کا کھونج لگا اور اس بات کا یقین کر لے کہ وہ مسئلہ حقیقت میں مسئلہ ہے بھی؟

۵۔ اس بات کا یقین حاصل کر لے کہ خاوند کے ساتھ بحث کے دوران تجھے اپنے اسلوب پر، بات کرنے کے طریقہ پر، حرکات و سکنات پر اور اپنا مدد عابیان کرنے کے لیے جو الفاظ اور جملے تو استعمال کر رہی ہے ان پر تجھے مکمل کنٹرول حاصل ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

مترجم

ابوالقاسم محمد حماد بن عبدالستار احمد

سلطان کالوںی۔ میان چنوں

لیم جنوری 2011 بروز ہفتہ

سیرت کے قارئین کے لیے سدا بہار اور انمول تحفہ

حَمْدُ اللَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ

قاضی محمد سلیمان سلان مخضو پیشی

اس کتاب میں قرآن و سنت،
قدیم صحف سماوی (تورات، زبور، انجیل)
اور غیر آسمانی نہیں کتب سے آخرالزمان
پیغمبر ﷺ کی صداقت بیان کی گئی ہے
اور یہود، ہندو اور نصاریٰ کے
اعتراضات کا مکمل رد کیا گیا ہے۔

(تیرٹھ 1921-1933) سلطان کے تصحیح شدہ ارشاد

4

مکتبہ مسلمان

بانگالور میں ملک علی سری نامدار پاکستان فون: 042-37244973

ستون سوت پیک بالخالی شل ہنول پیپ کوٹل رہنڈ فیصلہ یار پاکستان فون: 041-2631284، 2034256

E-mail: maldabaislamia@pk@gmail.com

سید محدث

اور
آدابِ مبادرت

علام ناصر الدین البانی رضی اللہ عنہ
محمد رضا ختر صدیق

لاما صریح ناصر الدین البانی رضی اللہ عنہ نے اس کتاب میں مبادرت کے آداب، ہماری رات سے
حدائق سائک ہمیں اور ہمیں کا خوبصورت قطب اور شادی پر قیمتی امور کا انجام میے
اہم ترین موضوعات کو اپنائی گئی ہے اور اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے، اے
محمد رضا ختر صدیق نے اردو قلب میں ذمہ دار ہے۔ یہ کتاب ہر مسلمان کے لیے عورت
اور شادی کرنے والے لوگوں کے لیے خصوصی تجھی تھے، خود پر صدقے
اور دوستوں کو ہدیہ دیجئے



مکتبہ اسلامیہ

بانگل، رہاں سارکٹ غرضی سڑک، روڈ بانگل، لاہور۔ پاکستان فون: 042-37244973

میمن سٹ پرینک، بالگھر شل پیول پیپ کوتوال روڈ، فیصل آباد، پاکستان فون: 041-2631204, 2834256

E-mail: mktabaislamia@gmail.com

ازدواجی زندگی کے اسلامی اصولوں
پر مشتمل دلکش اور بہترین کتاب

تُرْكُوفُ الْعَرْوَنْ

ہدیہ: محمود محمدی استنبولی

تعقیق تحریح و تصحیح، حافظ ندیم طہییر

ترجمہ، مولانا خاڑی الحرمہ ندوی



مکتبہ اسلامیہ

بالقابل رحمان مارکیٹ غربی سڑیت اردو پازار لاہور۔ پاکستان فون: 042-37244973

بیسم اللہ رب العالمین شیخ چرول پیپ کوتولی روڈ، فصل آباد۔ پاکستان فون: 041-2631204، 2034256

E-mail: maktabaislamiapk@gmail.com

میان بیوی ایک ذہن سے

کا دل کی جیتیں



بیوی خاوند کے تعلقات کو خوشگوار کیونکر بنایا جا سکتا ہے؟ اس موضوع پر یہ
کتاب انہائی میں بہا اور معلومات افراز ہے لیکن عام طور پر اس موضوع پر کاچی گئی کتابوں کا
اسلوب یہ ہوتا ہے کہ نیک بیوی کی خصوصیات کو اس مرد کے مطالعہ کے لیے پیش کیا جاتا
ہے جو شادی کا خواہش مند ہوتا ہے اور نیک خاوند کی امتیازی صفات اس عورت کے
مطالعہ کے لیے بیان کی جاتی ہیں جو رشتہ ازدواج میں مشکل ہونے کا ارادہ رکھتی ہے حالانکہ
ضرورت اس بات کی ہے کہ عورت کو اس امر سے روشناس کرایا جائے کہ کس طرح وہ ایسی
در باب بیوی بن سکتی ہے جو صرف نیک ہی نہ ہو بلکہ اس کی ادائیگی میں ایسی خوبصورت ہوں جن
کے پیش نظر وہ خاوند کو اپنی زلف گرہ گیر کا اسیر بن سکے اور خاوند کو یہ بات سکھائی جائے کہ وہ
کس طرح ایک مسحور کن خاوند بن سکتا ہے جو اپنی بیوی سے حسن معاشرت اور اپنے
خوبصورت طور و اطوار کی بنایا پر اپنی رفیقہ حیات کے دل کا مالک بننے کی صلاحیت رکھ سکے۔
کتاب کے پہلے حصے میں ان عمومی صفات کو بیان کیا ہے، جن کے زیر سے آرتھ ہونا ایک
مسحور کن خاوند کے لیے ضروری ہے اور دوسرا حصہ میں ان اعلیٰ خاصیات کا ذکر کیا ہے جو
ایک در باب بیوی کی زندگی کا جزو لا بینک ہوئی چاہیں تاکہ ان دونوں کی زندگی ایسی زندگی
بن جائے جس سے پیار و محبت، والہانہ شوق اور وارثی و فریضی کے سوتے پھوٹتے
ہوں جو راحت و سکون اور رحمت و مودت کا باعث ہوں، تیرے حصے میں چند ایسے
 مضامین کا اضافہ کیا ہے جن کا کتاب کے موضوع
سے بڑا اگہر اتعلق ہے۔